

اللّٰهُمَّ إِنَّا نُسَمُّ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ رَسُولَكَ الْأَعْظَمَ وَإِنَّا نُسَمُّ مَوْلَانَا أَبَا الْأَئْمَاءِ  
جَرَّاءً لِشَدَّادِيْنَ كَمَا أَنَّا نُسَمُّ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ رَسُولَكَ الْأَعْظَمَ فِي مَنْزِلِهِ شَرَفَ الْمُنْزَلِ (الْمَكَانِ)

# توہینِ سالست کی شرعی سزا



شیخ العلیٰ احمد بن محمد حبیب جاتب زادہ بخاری

مکتبت حبیبیہ  
ناصر و دیباخون

Ph:052-4591911  
Mob:03006161913

نامِ کتاب

# توہینِ سالث کی شرعی حرزا

تالیف

شیخ المرثیہ مولانا محمد بن جانباز امیر قادری



اگست 2007ء	سال اشاعت
مکتبہ رحمانیہ	ناشر
سوم	طبع
1100	تعداد
	قیمت

ملٹے کے پتے

مکتبہ رحمانیہ: اردو بازار گوجرانوالہ

مکتبہ قدوسیہ: رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

رحمانی کتب خانہ: اردو بازار لاہور

والی کتاب گھر: اردو بازار لاہور

مکتبہ رحمانیہ  
ناصر و دیگر

Ph:052-4591911  
Mob:03006161913

## فہرست

شیخ الحدیث مولانا محمد علی جاپانی	جاذباز	۱
تقرییز ازمخترم پروفیسر حشاق احمد صاحب (مشکرگڑھ)		۱۲
مقدمہ		۱۵
توہین رسالت کی صورت اور اس کی سزا		۲۱
توہین رسالت ﷺ کی سزا کے تاریخی شواہد		۲۶
شامِ رسول ﷺ کی سزا کے بارے میں انہے کے اقوال		۲۸
کتاب الصارم المسلط لکھنے کا سبب		۳۳
شامِ رسول ﷺ کی توبہ		۳۴
مرتد کی سزا		۳۵
رسول اللہ ﷺ کو گالی دینے سے ذی کا عہد ثوث جاتا ہے		۳۶
آیات قرآنی		۳۷
علمائے دین اور دینی مقتداوں کے ساتھ بھی بھی ادب مخطوط		
رکھنا چاہیے۔		۷۳
آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام ﷺ کا حال		۷۴
روضہ رسول ﷺ کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام		
کرنا منع ہے		۷۵
حجرات امہات المؤمنین فتح العلیہ		۷۸
آیت مذکورہ کا شانِ نزول		۷۸
رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح کی اپیاء پہنچانا کفر ہے		۱۰۳
شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں		۱۰۳

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق باہم لازم و ملزم ہیں	۱۰۷
واقعہ افک کا تاریخی پیش منظر	۱۱۳
حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۱۲۵
ایک اہم تنبیہ	۱۲۶
حدہ قذف	۱۲۶
حضرت صدیقہ عائشہؓ کو گالی دینے والے کا حکم	۱۲۷
حضرت صدیقہ عائشہؓ کے سواد گیر امہات المؤمنین کو گالی دینا	۱۳۰
احادیث نبویؓ	۱۳۲
کیا پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں ایک ہی واقعہ ہے؟	
یاد و عورتوں کا قصہ؟	۱۳۶
کعب بن اشرف یہودی کا قتل	۱۳۸
کعب بن اشرف کے قتل کے اسباب	۱۵۳
ابن سینہ یہودی کا قتل	۱۵۶
اس واقعہ سے وجہ استدلال	۱۵۸
ابورافع یہودی کا قتل	۱۶۱
فتحِ مکہ اور عفو عام	۱۶۲
ابوسفیان بن حارث	۱۸۳
واقعہ ابی سفیان سے استدلال	۱۸۸
أنضر بن حارث و عقبہ بن ابی معیط	۱۸۹
وجہ استدلال	۱۹۰
ابوعزة عمر وحی شاعر کی گستاخی اور انعام	۱۹۱
گستاخ رسول ابو جہل ملعون کا انعام	۱۹۲
ایک اعتراض اور اس کا جواب	۱۹۳

۱۹۵	کفار کی رسول اللہ ﷺ کو ایذا اور سانی
	جن گستاخان رسالت ﷺ سے مسلمان انتقام نہ لے سکیں ان کے
۲۰۲	بارے میں اللہ کی سنت
۲۰۳	قیصر و کسری کے نام دعوتِ اسلام کے خطوط
۲۰۴	دشمنان خاص
۲۰۵	ابوجہل بن ہشام
۲۰۶	ابوجہل کا قتل
۲۰۸	ابوجہل کی لاش کی تلاش
۲۱۱	ابولہب
۲۱۲	پس منظر
۲۲۰	ابولہب کی عبرتیک موت
۲۲۱	امیة بن خلف
۲۲۳	ابن بن خلف
۲۲۴	عقبہ بن ابی معیط
۲۲۵	بے دین دوستوں کی دوستی کا انجام
۲۲۷	ولید بن مغیرہ
۲۲۸	ابوقیس بن الفاکہ
۲۲۹	نصر بن حارث
۲۳۰	عاص بن واکل سہی
۲۳۱	نبیہ و مئپہ پران جاج
۲۳۲	اسود بن مطلب
۲۳۳	اسود بن عبلیخوٹ
۲۳۴	حارث بن قیس سہی

۲۳۳	ایک مفتری کا حب کا واقعہ
۲۳۶	صحابہ کرام شاتم رسول ﷺ کو قتل کر دیا کرتے تھے اگرچان کا رشتہ داری کیوں نہ ہوتا
۲۳۹	حدیث منْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا كَاشَانِ ذُرُود
۲۴۲	رسول اللہ ﷺ کے کسی قول یا فعل پر اعتراض و طعن کرنا آپ ﷺ کی توہین ہے
۲۴۳	خواجہ کے بارے میں احادیث
۲۴۷	راج پال ہندو کی توہین رسالت
۲۴۸	غازی خدا بخش کا راج پال پر پہلا قاتلانہ حملہ
۲۴۹	غازی عبدالعزیز
۲۵۰	غازی علم الدین شہید کا راج پال پر حملہ
۲۵۲	راج پال جہنم رسید
۲۵۷	غازی عبد القیوم شہید اور نchoram کا قتل
۲۶۱	غازی محمد صدیق شہید
۲۶۳	غازی عبداللہ شہید
۲۶۴	غازی عبدالرشید شہید
۲۶۵	توہین صحابہ ﷺ کی شرعی سزا
۲۶۸	ذکورہ اقوال کے دلائل
۲۷۳	صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ
۲۷۳	آیات قرآنی
۲۷۸	صحابہ کرام پر طعن و تشقیع اس آیت کے خلاف ہے
۲۸۳	صحابہ کرام کے فضائل احادیث نبویہ میں
۲۹۳	خلاصہ کلام

۲۹۳	الصحابۃ کلہم عدول	✿
۲۹۴	مغربی دنیا کی دریہہ و نی	✿
۲۹۶	تو ہین آمیر خاکے	✿
۳۰۶	ہولوکاست کیا ہے؟	✿
۳۰۹	تو ہین آمیر خاکے اور عصر حاضر کے قوانین	✿
۳۲۰	شانِ رسول ﷺ میں گستاخی اور پیروانِ رسول ﷺ کا موقف	✿



## شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز حفظہ اللہ علیہ

### ولادت باسعادت:

مولانا محمد علی جانباز حفظہ اللہ علیہ ۱۹۳۵ء میں مشرقی پاکستان کے ضلع فیروز پور (بھارت) کے قصبہ بدھوچک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حاجی نظام الدین ہے اور آپ کا تعلق راجپوت و نو براذری سے ہے۔

### تعلیم کا آغاز:

مولانا محمد علی جانباز حفظہ اللہ علیہ نے تعلیم کا آغاز اپنے قصبہ ہی کی مسجد سے کیا۔ یہاں آپ کے استاد مولانا محمد رحیمیہ تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی ابتدائی کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں اور بعد ازاں انہیں استاد محترم محمد رحیمیہ کی ترغیب پر ۱۹۵۱ء میں آپ مدرسہ تعلیم الاسلام اوڈا انوالہ ضلع فیصل آباد میں داخل ہوئے۔ یہاں پر آپ نے فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد صادق خلیل رحیمیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یعقوب قریشی رحیمیہ سے مختلف فنون کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۹۵۳ء میں آپ جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے شیخ الغرب والجنم استاد العلماء حضرت العلام حافظ محمد محدث گوندوی رحیمیہ اور استاد العلماء محدث العصر حضرت الشیخ مولانا ابوالبرکات احمد مدرسی رحیمیہ سے کب فرض کیا۔ یہاں سے فراغت کے بعد ۱۹۵۸ء میں جب جامعہ سلفیہ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو آپ حضرت العلام حافظ محمد گوندوی رحیمیہ کے ہمراہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد تشریف لے گئے۔ جامعہ سلفیہ میں آپ نے حافظ محمد گوندوی رحیمیہ سے صحیح بخاری، موطا امام

مالک، حجۃ اللہ البالغہ، سراجی اور کئی ایک کتابوں کا درس لیا۔ حافظ محمد گوندوی رضویہ کے علاوہ آپ نے جامعہ سلفیہ میں ہی فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا شریف اللہ خان سواتی اور حضرت مولانا پروفیسر غلام احمد حریری رضویہ سے بھی استفادہ کیا۔ اور اسی اثناء میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی اور فاضل فارسی کے امتحنات بھی پاس کئے۔

### تدریس کی ابتداء:

فارغ التحصیل ہونے کے بعد ۱۹۵۸ء میں حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رضویہ کی تحریک پر آپ نے جامعہ سلفیہ فصل آباد سے ہی اپنے تدریسی دور کا آغاز کیا۔

۱۹۶۲ء میں مولانا جانباز سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ یہاں پر آپ نے پہلے پہلی مدرسہ دارالحدیث جامع مسجد الہمدیث ڈپٹی باغ میں درس و تدریس شروع کی دوسال بعد یہ مدرسہ ڈپٹی باغ والی مسجد سے مسجدِ اہل حدیث ابراہیمیہ میانہ پورہ منتقل ہو گیا۔ اور مدرسہ کا نام دارالحدیث سے تبدیل کر کے جامعہ ابراہیمیہ رکھا گیا اور مولانا محمد علی جانباز رضویہ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور آپ کی شب و روز کی محنت کی وجہ سے جامعہ ابراہیمیہ ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔

۱۹۷۰ء میں مولانا محمد علی جانباز رضویہ نے جامعہ ابراہیمیہ کو جامع مسجدِ اہل حدیث محلہ لاہوری شاہ ناصر روڈ پر منتقل کیا۔ ۱۹۷۹ء تک آپ اسی مسجد میں درس و تدریس کا کام سرانجام دیتے رہے اور ۱۹۸۰ء میں جامعہ ابراہیمیہ کو

مستقل طور پر الگ عمارت میں منتقل کیا اور بعد میں اس کا نام ابراہیمیہ سے تبدیل کر کے جامعہ رحمانیہ رکھا گیا۔ جو الحمد للہ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم اور مولانا محمد علی جانباز ﷺ کی انٹک مخت اوز کا دش کی وجہ سے کتاب و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔

### مضمون نگاری:

مولانا محمد علی جانباز ﷺ نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی مضمون نگاری کا آغاز کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے مختلف موضوعات پر جماعت اہل حدیث کے رسائل و جرائد میں مضامین کا سلسلہ شروع کیا۔

### تصانیف:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علی جانباز ﷺ نے مختلف مضامین کے علاوہ مختلف عنوانات پر مستقل کرتا ہیں بھی لکھی ہیں جن میں سے شہرہ آفاق کتاب إنجاز الحاجہ شرح ابن ماجہ (۱۲ جلدیں)، اہمیت نماز، صلوٰۃ المصطفیٰ ﷺ، معراج مصطفیٰ، آل مصطفیٰ ﷺ، توہین رسالت کی شرعی سزا، آحکامِ نکاح، آحکامِ طلاق، حرمتِ معہ بجواب جواز متعدد اور تاریخ پاکستان اور حکمرانوں کا کردار قابل ذکر ہیں۔

### مولانا کی شخصیت:

تابغہ عصر، تفضیلۃ الشیخ، شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد علی جانباز ﷺ جماعت الہدیث کے ممتاز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ محقق، مؤرخ،

مجتهد، فقیہ، ادیب اور دانشور ہیں۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ بلکہ پاپیہ خصوصیات کے حامل ہیں تمام علوم دینیہ پر آپ کو یکساں دسترس حاصل ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسماء الرجال، تاریخ و سیر، منطق و فلسفہ، لغت و ادب اور صرف و نحو پر آپ کو کامل عبور حاصل ہے۔ حدیث اور اسماء الرجال پر آپ کی نگاہ و سیع ہے۔ فقہ مذاہب اربعہ کے ساتھ ساتھ فقہ جعفریہ سے بھی آپ کو خوب شناسائی حاصل ہے۔

علوم اسلامیہ میں جامع الکمالات ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب عادات و خصال کے اعتبار سے نہایت پاکیزہ انسان ہیں۔ عزت و شرافت اور قناعت آپ کی سیرت کا جوہر خاص ہے۔ زہد و ورع، تقویٰ و طہارت اور شمائل و اخلاق میں سلف صالحین اور علماء ربانیین کے اوصاف کے حامل ہیں۔

عبادت و ریاضت میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کی چو امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تین سنت ہیں اور سنت رسول ﷺ نے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں۔

مولانا جانباز اللہ ایک کریم النفس اور شریف الطبع شخصیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر محنتوں اور کاؤشوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تادریقائم و دامّ رکھے۔ آمين

طالب دعا

حافظ محمد اشتیاق

۰۳۲۱۷۱۹۳۳۹

مارچ ۲۰۰۲ء جامعہ رحمانیہ، سیالکوٹ

## تقریط

از

### محترم پروفیسر مشتاق احمد صاحب (شکر گڑھ)

حضرت مولانا محمد علی جانباز عصر حاضر کے نامور بحید اور اکابر علمائے اہل حدیث میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ اور تصنیف و تسویہ میں گذاری ہے۔ آپ کا ذوق اور مزاج شروع سے ہی نہایت محققانہ ہے اور مسائل کی تحقیق میں ان کی ایک خاص شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ افراط و تفریط سے پہلو بچاتے ہوئے رہتے ہیں اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آپ کی زیر نظر کتاب ”توہین رسالت ﷺ کی شرعی سزا“ کا رقم الحروف نے بظیر غارہ مطالعہ کیا ہے۔ تحقیق تو حضرت کا مزاج ہے لیکن اس کتاب میں بالخصوص موضوع کی تحقیق کے ساتھ ساتھ ان کی محبت رسول جس خاص شان سے نمایاں ہے وہ کتاب کے لفظ لفظ سے جملکتی ہے۔

جہاں تک حضور ﷺ کے آداب و احترام کا تعلق ہے کتاب کے صفحے ۷۷ پر یوں رقطراز ہیں: ”وہ ہستی جو ساری انسانیت کے لیے واجب الاحترام ہے اس کے دربار رسالت میں ادب و احترام گفتگو اور تنخاطب کے آداب بھی قرآن مجید نے اہل ایمان کو سکھلانے ہیں آپ ﷺ کی مخالفت اور دشمنی تو صریحاً کفر ہے لیکن آپ ﷺ کی شان میں کسی قسم کی سوء ادبی بھی غارت گر اعمال اور اعلان کفر ہے۔“

جب کتاب میں گستاخان رسول کا کہیں حوالہ دیتے ہیں تو ایسے نظر

رشدی اور عاصمہ کو عاصمہ ملعونہ اور راجپال جیسے بدجختوں جیسے الفاظ والقاب سے ذکر کرتے ہیں۔ اور یقیناً جو گستاخ رسول ہے وہ ان سے بھی زیادہ سخت الفاظ کا مستحق ہے۔

مولانا نے یہ کتاب اسی پس منظر اور اسی جذبہ کے تحت لکھی ہے۔ جس پس منظر اور جذبہ کے تحت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“ تحریر کی تھی۔ جب حضرت الامام کے زمانہ میں ایک نصرانی نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت الامام نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور رہا ہونے کے بعد مذکورہ بالا کتاب لکھ کر مسلمانان عالم کو گستاخ رسول ﷺ کی شرعی سزا کے بارے میں آگاہ کیا۔

بعینہ حضرت شیخ الحدیث نے زمانہ حاضر کے گتاخانِ رسول سلمان رشدی، عاصمہ ملعونہ اور راجپال جیسے بدجختوں کے بارے میں یہ کتاب لکھ کر ایک طرف تو اپنے جذبہ صادق چہ رسول کا مظاہرہ کیا ہے تو دوسری طرف عوام کو شاتمِ رسول ﷺ کی شرعی سزا کے بارے میں خبردار کیا ہے۔

اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جو صرف ایک اہل حدیث عالم ہی کا نصیب ہے یوں تو عربی زبان میں اس موضوع پر چند کتابیں موجود ہیں ان میں سے چار کتابوں کا حوالہ حضرت شیخ الحدیث نے کتاب کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اردو زبان میں اس موضوع پر کسی بریلوی یا دیوبندی ہشیعہ یا سنتی عالم نے کوئی کتاب نہیں لکھی یا کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔

یہاں تک کہ عصر حاضر کے ایک محقق عالم دین حضرت مولانا محمد علی

جانباز کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے پختا۔ چنانچہ موصوف نے تو ہیں رسالت کی شرعی سزا کے عنوان سے ایک عظیم الشان کتاب لکھ کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ میری نظر میں یہ کتاب طلباء، علماء فضلاء اور وکلاء کے لیے یکساں مفید اور قابل مطالعہ ہے۔ ہر لاجبری میں اس کتاب کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگرچہ مولانا نے اس کتاب کی تسویہ میں انہیں چار کتابوں سے استفادہ کیا ہے جن کا حوالہ آپ نے کتاب کے مقدمہ میں دیا ہے۔ لیکن مولانا کا اپنا ہی اسلوب تحریر ہے جس عمدگی، ترتیب و تنقیح کے ساتھ آپ نے شہ سرخیوں کے تحت دلائل و موارد کو پیش کیا ہے وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ آپ نے کتاب کو نہایت سلیمانیہ اور عام فہم بنادیا ہے۔ اور کتابوں کے حوالے بمع اصل عبارت کے بزبان عربی و دے کر تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کتاب وکلاء اور رجح حضرات کے لیے بھی توہین رسالت کے مقدمات کا فیصلہ کرنے میں بے حد مفید اور اہنم ثابت ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا شیخ الحدیث کی اس محنت کو ”سعیاً مشکوراً“ بنا کر فلاح دارین کا ذریعہ بنادے۔ امین ثم امین۔

پروفیسر حافظ مشتاق احمد

جامعہ رحمانیہ شکر گڑھ

۲۶/۹/۲۰۰۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مقدمہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْتُمْ  
آمَّا بَعْدُ!

رسول اللہ ﷺ کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متعاری ایمان ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن محبوب خدا، شافع روز جزا، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں ادنی بے ادبی و گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے اور اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان سرکار دو عالم ﷺ کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے اور ایسے مُوذیوں کے مقابلے میں پچھپے رسول ﷺ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔

یہود و نصاری رسول اللہ ﷺ کی شان عالی میں گستاخی کے شوشے وقتاً فوقاً چھوڑتے رہتے ہیں اور اہل ایمان کی طرف سے ان پر احتجاج کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ گذشتہ دو سالوں سے شیطان رُشدی کی شیطانی کتاب پر فرزندانِ اسلام نے جس غم و غصہ کا اظہار کیا اور انگلیڈ سے

پاکستان تک اس پر جس قدر احتجاج کیا گیا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ اسلام و شمن عناصر مسلمانوں کے اس احتجاج سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی طرف سے گستاخی و دریدہ ہنی کا مسلسل مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی شیطان رُشدی اور عاصمہ ملعونہ جیسوں کو اپنا آله کا ربانی لیتے ہیں اور اپنے ٹھبٹ باطن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں ہر دوڑ اور ہر عہد میں اس محبوب کائنات ﷺ کے حضور ان کے چاہئے والے عقیدت و محبت کے گلاب پیش کرتے رہے وہاں کبھی کبھی ان سے بعض اور ان کے دین سے عداوت رکھنے والے پیارڈ ہن ان کی شان میں زبانِ طعن بھی دراز کرتے رہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اوائلِ اسلام ہی سے اہانتِ رسول ﷺ کے جرمِ فتنج کا ارتکاب کرنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی رہی ہے۔ کرہ ارض پر جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی وہاں شاتمِ رسول ﷺ کے لیے سزاۓ موت کا قانون رائج رہا عہد رسالت، دوڑ خلافت اور بعد میں شرق و غرب کی تمام اسلامی سلطنتوں میں گستاخی کرنے والوں کو ہمیشہ موت کی سزا دی جاتی رہی اور جہاں کہیں یا جہاں کبھی ان کے یا اس حکومت نہیں وہاں جانشوارِ تحفظ ناموس رسالت نے غیر مسلم حکومت رائجِ الوقت قانون کی پرواکھے بغیر گستاخانِ رسول ﷺ کو کیفرِ کردار تک پہنچایا اور خود ہنستے مسکراتے تختہ دار پر چڑھ گئے۔

چنانچہ انگریز کے دورِ اقتدار میں ناموسِ رسالت کے تحفظ کے لیے کوئی

قانون نہیں تھا لیکن راج پال جیسے بد بختوں نے سرکار دو عالم ﷺ کی عزت پر ناپاک حملے کئے اور وہ غازی علم الدین شہید جیسے فدائیان رسالت کے ہاتھوں کیفیر کردار کو پہنچ تو انگریز کو مذہبی راہنماؤں کی عزت ناموس کے لیے قانون وضع کرنا پڑا۔ چنانچہ ۱۹۲۲ء میں تعزیرات ہند میں دفعہ ۲۹۵۔ الف کا اضافہ کیا گیا جو مجموعہ تعزیرات پاکستان مطبوعہ کیم جولائی ۱۹۶۲ء درج الفاظ میں مذکور ہے۔

## دفعہ ۲۹۵۔ الف

جو کوئی شخص ارادۃ اور اس عداوتی نیت سے کہ پاکستان کے شہریوں کی کسی جماعت کے مذہبی احساسات کو بھڑکائے بذریعہ الفاظ زبانی یا تحریری اس جماعت کے معتقدات مذہبی کی توہین کرے یا توہین کرنے کا اقدام کرے اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد دو برس تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزا میں دی جائیں گی۔

”چوبدری محمد شفیع باجوہ“ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ دفعہ ۱۹۲۲ء میں زیادہ کی گئی تاکہ اگر کسی مذہب کے بانی پر توہین آمیز حملہ کیا جائے تو ایسا کرنے والے کو سزا دی جاسکے۔ اس سے پہلے اس قسم کے اشخاص کے خلاف دفعہ ۱۵۳۔ الف استعمال ہوا کرتی تھی۔ مگر ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ کی رو سے یہ طریقہ غلط قرار پایا۔

[شرح مجموعہ تعزیرات پاکستان ص ۱۱۲ - ۱۲۱]

چونکہ توہین رسالت کے مجرم کی یہ سزا [جو انگریزی قانون نے تجویز

کی اور جسے تعزیرات پاکستان میں جوں کا توں رکھا گیا تھا [بالکل ناکافی تھی اس لیے ۱۹۸۲ء میں تعمیرات پاکستان میں دفعہ ۲۹۵-سی کا اضافہ کیا گیا اور اس کے ذریعہ اس جرم کی سزا سزاۓ موت یا عمر قید مع جرمانہ تجویز کی گئی۔

تعزیرات پاکستان کی یہ دفعہ ۲۹۵-سی اسلامی قانون سے ہم آہنگ نہیں تھی کیونکہ اس میں اس عکین جرم کی سزا سزاۓ موت یا عمر قید تجویز کی گئی حالانکہ توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف قتل ہے اس لیے وفاقی شرعی عدالت نے اکتوبر ۱۹۹۰ء میں اپنے فیصلہ میں صدر پاکستان کو ہدایت کی کہ ۳۰ اپریل ۱۹۹۱ء تک اس قانون کی اصلاح کی جائے اور اس دفعہ میں ”یا عمر قید“ کے الفاظ حذف کر کے توہین رسالت کی سزا صرف موت مقرر کی جائے اگر اس تاریخ تک حکومت نے اس قانون کی اصلاح نہ کی تو اس تاریخ کے بعد یہ الفاظ خود بخود کا عدم قرار پائیں گے اور صرف سزاۓ موت ملک کا قانون قرار پائے گا۔ لیکن حکومت نے اس تاریخ سے قبل اس قانون کی اصلاح نہیں کی اس لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلہ کے مطابق دفعہ ۲۹۵-سی میں ”یا عمر قید“ کے الفاظ کا عدم قرار پائے اور قانون یہ بن گیا کہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا صرف موت ہے۔

ہمارے قانون ساز اداروں کو بعد از وقت خیال آیا کہ اس قانون کی اصلاح ہونی چاہیے اور دفعہ ۲۹۵-سی میں ”یا عمر قید“ کے الفاظ حذف کرنا چاہیں۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے ۲ جون ۱۹۹۲ء کو متفقہ قرارداد منظور کی کہ توہین رسالت کے مرکب کو سزاۓ موت دی جائے۔

## سینٹ کا فیصلہ:

۸ جولائی ۱۹۹۲ء کو سینٹ کے مجرم کو سزاۓ موت کا ترمیمی بل منظور کیا۔

پھر سینٹ نے ایک اور بل کی منظوری دی جس کے تحت سروہ دو عالم ﷺ کے اسم مبارک کی بے حرمتی کی سزا موت ہوگی۔ فوجداری قانون میں تیری ترمیم کا بل وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں منظور کیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلہ میں کہا تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۵ سی کے تحت رسول ﷺ کے اسم مبارک کی بے حرمتی پر عمر قید کی سزا اسلامی احکامات کے منافی ہے۔

یہ بل جو قومی اسمبلی پہلے ہی منظور کر چکی ہے سینٹ میں وزیر قانون چوبدری عبدالغفور نے پیش کیا انہوں نے بل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قانون میں شامیم رسول ﷺ اور توہین رسالت کی سزا عمر قید یا سزاۓ موت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں رسول اکرم ﷺ کے اسم مبارک کی توہین کی سزا عمر قید کی بجائے سزاۓ موت تجویز کی گئی ہے کیونکہ عدالت کے خیال میں ایسے مجرم کو صرف سزاۓ موت ہی دی جانی چاہئے۔

اب توہین رسالت ﷺ کی سزا پاکستان میں بطور سزاۓ حد نافذ ہو گئی ہے مگر حکومت چونکہ بے دین ہے اسے یہ سزا گوارانہیں ہے اس لیے سزا میں وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے مگر عوام کے احتجاج اور غیض و غصب سے ڈر کر اب تک وہ ایسا نہیں کر سکی اور نہ آئندہ ان شاء اللہ کر سکے گی۔

توہین رسالت کے مسئلہ پر کئی علماء دین نے کتابیں لکھیں جن میں  
سے چند ایک یہ ہیں۔

- ۱: الصارم المسلول علی شاتم الرسول ﷺ از شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ حنبلی.
- ۲: السیف المسلول علی شاتم الرسول ﷺ از امام تقی الدین سبکی، شافعی.
- ۳: کتاب الولاة والحكام علی احکام شاتم خیر الانام از علامہ شامی، حنفی.
- ۴: کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی از قاضی عیاض اندلسی، مالکی۔

ان مذکورہ کتب میں سے زیادہ جامع اور اہم اول الذکر دو کتابیں  
ہیں۔

### اخقر العباد

**محمد علی جانباز**

جولائی ۲۰۰۶ء

## توہین رسالت

### کی صورت اور اُس کی سزا

جو آدمی [کافر ہو یا مسلم] سید الادلین، شفیع المنذنین، رحمة للعالمين، حضرت محمد ﷺ پر ہنسی ازاتا ہے یا ان کی سیرت و زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں استہزا کیے انداز اختیار کرتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کو گالی دیتا ہے یا ان کی طرف بری با توں کو منسوب کرتا ہے یا آپ کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کو بازاری عورت اور طوائفوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کو ایک دیوانہ اور مجھون آدمی کا خواب بتاتا ہے یا ایک ناول اور کہانی سے تعبیر کرتا ہے تو وہ آدمی سراسر کافر، مرتد، زنداق اور ملحد ہے اگر ایسا آدمی کسی مسلمان ملک میں یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی حکومت پر واجب ہے اور مشہور قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان من سب النبی ﷺ من مسلم او کافر فانه یحب  
قتله هذا مذهب علیہ عامۃ اهل العلم قال ابن المنذر:

اجمیع عوام اهل العلم علی ان حد من سب النبی ﷺ  
القتل و ممن قاله مالک واللیث و احمد و اسحاق و هو  
مذهب الشافعی قال و حکی عن نعمان لا يقتل يعني  
الذین هم علیه من الشرک أعظم و حکی ابو بکر  
الفارسی من اصحاب الشافعی اجماع المسلمين علی  
ان حد من سب النبی ﷺ القتل و قال محمد بن  
سحنون: اجمع العلماء علی ان شاتم النبی ﷺ و  
المتنقص له کافر والوعید جاء علیه بعذاب الله له حکمه  
عند الامة القتل و من شک فی کفره و عذابه کفر.

[الصارم المسلول ص ۳]

عام اہل علم کا مذهب ہے کہ جو آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافرنی  
ﷺ کو گالی دیتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ابن منذر نے  
فرمایا کہ عام اہل علم کا اجماع ہے کہ جو آدمی نبی ﷺ کو گالی  
دیتا ہے اس کی حد قتل کرتا ہے اور اسی بات کو امام مالک رضی اللہ عنہ، امام  
لیث، امام احمد رضی اللہ عنہ، امام اسحاق رضی اللہ عنہ نے بھی اختیار کیا ہے اور امام  
شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذهب ہے۔ اور ابو بکر فارسی نے اصحاب امام  
شافعی سے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کی  
قتل ہے۔ محمد بن سحنون نے فرمایا کہ علماء کا اجماع ہے کہ شاتم  
رسول ﷺ اور اس کی توہین تنقیص کرنے والا کافر ہے اور حدیث  
میں اس کے لیے سخت سزا کی وعید آئی ہے اور امت مسلمہ کے

نzdیک اس کا شرعی حکم قتل ہے اور جو آدمی اس شخص کے کفر اور عذاب کے بارے میں شک و شبہ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں:

اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص رسول کریم ﷺ کی توہین کرے یا آپ ﷺ کو گالی دے تو اسے قتل کیا جائے اسی طرح دیگر علماء سے بھی رسول کریم ﷺ کی توہین کرنے والے کے واجب القتل اور کافر ہونے کے بارے میں اجماع نقل کیا گیا ہے۔

امام خطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میرے علم کی حد تک کسی مسلمان نے بھی اس کے واجب القتل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

[الصارم المسلول ص ۱۵]

مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات آفتابِ نیم روز کی مانند واضح ہو گئی کہ باجماع امت نبی ﷺ کو گالی دینے والا یا ان کی توہین و تنقیص کرنے والا کھلا کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو آدمی اس کے کافر ہونے اور عذاب دینے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایک کافر کے کفر میں شبہ کیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے ابن سحون سے مزید نقل کیا ہے کہ:

ان السابت ان کان مسلما فانه يکفر ويقتل بغير خلاف

وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم.

[الصارم المسلول ص ۵]

”اگر گالی دینے والا مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور بلا اختلاف  
اس کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ ائمہ اربعہ وغیرہ کا مذہب ہے۔“

اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے کہ

کل من شتم النبي ﷺ او تنقصه مسلماً كان او كافراً  
فعليه القتل واري ان يقتل ولا يستتاب.

[الصارم المسلول ص ۴]

”جو آدمی بھی خواہ مسلمان ہو یا کافر اگر رسول اللہ ﷺ کو گالی  
دیتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے اور  
میری رائے یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی مهلت نہ دی جائے بلکہ فوراً  
ہی قتل کر دیا جائے۔“

درختار میں ہے:

وفي الآشيا لا تصح ردة السكران الا الردة بسب النبي  
ﷺ فانه يقتل ولا يعفى عنه.

[فتاوی شامی ص ۲۲۴ ج ۴]

”آشیا میں ہے کہ مت آدمی کی روت کا اعتبار نہیں ہے البتہ کوئی  
آدمی نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جائے تو اس کو  
قتل کر دیا جائے گا اور اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔“

امام احمد رضی اللہ عنہ اور اشیا کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شامم

رسول ﷺ کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا۔

پھر یہ شخص جب مسلسل اس جرم کے ارتکاب پر قائم ہے اور اس پر مُصر ہے تو اس کے واجب القتل ہونے اور اس کی توبہ قبول نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں۔

جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے:

و عن ابن عمر و على رضي الله عنهمَا لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو قول مالك واحمد والبيه  
وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مراراً يقتل غيلة.

[فتاویٰ شامی ص ۲۲۵ ج ۴]

”حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جو آدمی زندیق کی مانند بار بار مرتد ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور یہ امام مالک، احمد اور لیث کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسفؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہونے کا جرم بار بار کرتا ہے اس کو حیلہ سے اس کی بے خبری میں قتل کر دیا جائے۔“

اسی طرح درمختار میں ہے:

و كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا جماعة من تكررت  
ردته على ما مرّ والكافر لسب نبى من الانبياء فانه يقتل  
خدا ولا تقبل توبته مطلقاً.

[فتاویٰ شامی ص ۲۲۱ ج ۴]

”ہر وہ مسلم جو (نحوذ باللہ) مرتد ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی

ہے مگر وہ جماعت جن کا ارتدا مکر (بار بار) ہوتا ہواں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور جو آدمی انبیاء میں سے کسی کو گالی دینے کی وجہ سے کافر ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔“

فقہاء کی ان عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سپ رسول ﷺ اور اس کی تہین اتنا بڑا جرم ہے کہ بالفرض اگر کوئی مست آدمی بھی نبی کریم ﷺ کو گالی دے گایا آپ ﷺ کی تہین و تحریر کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

اسی طرح امہات المؤمنین فاطمہؑ کی شان میں گستاخی کرنے سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچتی ہے اور گستاخی کرنے والے پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اسی لئے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فاطمہؑ نے فرمایا کہ امہات المؤمنین فاطمہؑ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مباح الدم ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو گناہ کی تہمت لگانے والے کے جرم کا ثبوت اور حضرت صدیقہؓ کی پاکدامتی کا ثبوت تو قرآن میں مذکور ہے۔ فقهاء کرام نے بھی اس کی رو سے ایسے شخص کو مباح الدم کہا ہے جو حضرت عائشہؓ پر تہمت گناہ لگاتا ہے۔

تو ہمین رسالت ﷺ کی سزا کے تاریخی شواہد

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جو شخص بھی رسول اللہ ﷺ کو گالی دینا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قاضی عیاض نے اپنی کتاب ”الغفاء“ میں ایسے

کئی افراد کا ذکر کیا ہے۔ جن میں کعب بن اشرف، ابو رافع، ابن خطل اور اس کی لوٹڑی، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہودیہ عورت اور قبیلہ خطمه کی عورت و حیرہ جو رسول اللہ ﷺ کے امریا ایماء پر قتل ہوئے کسی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ کسی کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے۔ کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو زندہ جلوادیا جس نے خود ان کو خدائی صفات سے موصوف کر کے اور اس طرح رسول اللہ ﷺ سے اونچا دکھا کے امت میں حضرت محمد ﷺ کی مرکزیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاضی عیاض نے حضرت جعفر صادق کے والد بزرگوار محمد کی روایت سے حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کا قول برداشت حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کسی بھی نبی ﷺ کو گالی دے اس کو قتل کر دو اور جو میرے اصحاب کو گالی دے اسے کوڑوں کی سزادو۔ ایک شخص کی بابت قاضی عیاض نے ابن قانع کی روایت سے تحریر کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا والد آپ کے بارے میں ناز پیا با تیس کرتا تھا لہذا میں نے اسے موت کے گھاث اتار دیا یہ بات ایک فرزند کا اپنے باپ کو قتل کرنا رسول اللہ ﷺ کو ناگوار نہ گز ری۔

نبی اکرم ﷺ کے بعد روح اسلام کے سب سے بڑے رمزشاس ثانی اثنین اذہانی الغار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف جہاں گروہی اور جماعتی بغاوتوں کا سرچکل دیا وہاں رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کے مرتكب فرد کو بھی مستوجب سزا قتل جانا۔ ابو بکر بن احمد بن علی بن سعید نے اپنی کتاب مندادبی بکر میں تین حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ

ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گستاخی، بے ادبی کا رویہ اختیار کیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اجازت دیں اس کا سراز ادؤں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں فقط رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی دوسرے کی یہ شان نہیں۔

قاضی عیاضؒ نے ”الشفاء“ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی خدمت میں کسی نے لکھ بھیجا کہ فلاں شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بابت ناز پا کلمات کہتا ہے کیا میں اسے قتل کروں؟

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے جواب دیا فقط رسول اللہ ﷺ کی یہ شان ہے کہ ان کی ذات سے متعلق گستاخی کرنے والے کی سزا موت دی جائے۔

قاضی عیاضؒ نے ذکر کیا ہے کہ خلیفہ عباسی ہارون الرشید نے حضرت امام مالکؓ سے دریافت کیا کہ شاتم رسول ﷺ کی کیا سزا ہے؟ عراتی فقهاء کہتے ہیں کہ کوڑوں کی سزادی جائے اس پر حضرت امام مالکؓ جلال میں آگئے اور فرمایا اگر رسول اللہ ﷺ کو دشام کا ہدف بنایا گیا تو امت باقی نہیں رہے گی۔ جو شخص انبیاء کو دشام دے اس کی سزا قتل ہے اور جو شخص اصحاب رسول ﷺ کو سب و شتم کا نشانہ بنائے اسے کوڑوں کی سزادی جائے۔

شاتم رسول ﷺ کی سزا کے بارے میں ائمہ کے اقوال

تمام ائمہ دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ واجب القتل ہے اور یہ سزا اسے بطور حدی جائے گی۔

چنانچہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وفی حديث ابن عباس رضى الله عنهمَا وحديث  
الشعبي دليل على انه يقتل من شتم النبي ﷺ ونقل ابن  
المندز الاتفاق على ان من سب النبي ﷺ صريحاً  
ووجب قتله قال الخطابي لا اعلم خلافاً في وجوب قتله  
اذا كان مسلماً.

(السلسل الاول ضارص ۲۱۴ ج ۱۷)

”حدیث ابن عباس“ اور حدیث شعیبی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ کو سب و شتم کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا اور ابن منذر نے شاتم رسول ﷺ کے وجوب قتل پر اتفاق نقل کیا ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اس فعل شنیع کا مرتكب اگر مسلمان ہو تو اس کے وجوب قتل میں کوئی اختلاف نہیں۔“

امام شوکانی ”اس کے بعد لکھتے ہیں:

ونقل ابو بکر الفارسی احد ائمۃ الشافعیۃ فی کتاب  
الاجماع ان من سب النبي ﷺ بما هو قذف صريح  
کفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن  
حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتنویة.

(السلسل الاول ضارص ۲۱۴ ج ۱۷)

”امام ابو بکر الفارسی جن کا تعلق علماء شافعیہ سے ہے اپنی کتاب ”الاجماع“ میں شاتم رسول ﷺ کو واجب القتل قرار دیتے ہیں

اور اگر تو بھی کر لے تب بھی قتل ساقط نہیں ہو گا کیونکہ آپ پر قذف کی سزا قتل ہے اور حدّہ قذف تو بھے سے ساقط نہیں ہوتی۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

جو شخص بھی رسول اللہ ﷺ کو گالی دے یا آپ کی توہین کرے خواہ وہ مسلم ہو یا کافر تو وہ واجب القتل ہے میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔

الصارم المسلول ص ۱۵

قاضی عیاض فرماتے ہیں جو شخص بھی رسول اللہ ﷺ کو گالی دے یا آپ کی ذات یا نسب یا دین یا آپ کی عادت میں نقص و عیب نکالے یا اسے ایسا شے لاحق ہو جس سے آپ کو گالی دینے آپ کی تنقیص شان آپ سے بُغض وعداوت اور نقص و عیب کا پہلو نکلتا ہو وہ دشام وہنہ ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو گالی دینے والے کا ہے اور وہ یہ کہ اسے قتل کیا جائے اس مسئلہ کی کسی شاخ کو نہ مستثنی کیا جائے نہ اس میں شک و شبہ روارکھا جائے۔ خواہ گالی صراحةً دی جائے یا اشارہ وہ شخص بھی اسی طرح ہے جو آپ پر ”معاذ اللہ“ لعنت کرے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے یا آپ پر بد دعا کرے یا آپ کی طرف بھی ایسی چیز کو بطریقِ نہمت منسوب کرے جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو یا آپ سے کسی عزیز کے بارے میں رکیک، بیہودہ اور جھوٹی بات کرے یا جن مصائب سے آپ دوچار ہوئے ان کی وجہ سے آپ پر عیب لگائے یا بعض بشری عوارض کی وجہ سے جن سے آپ دوچار ہوئے آپ کی تنقیص شان کرے اس بات پر تمام

علماء اور ائمہ فتویٰ کا عہد صحابہؓ سے لے کر اگلے تاریخی ادوار تک اجماع چلا آتا ہے [کہ وہ واجب القتل ہے]

[الصارم المسلول ص ۵۲۸]

ابن القاسم امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔

[الصارم المسلول ص ۵۲۶]

امام ابو بکر الجصاص فرماتے ہیں:

ولا خلاف بین المسلمين ان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهو من يتحل الاسلام انه مرتد يستحق القتل.

[احکام القرآن ص ۸۶ ج ۲]

کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی اہانت اور ایذاء رسانی کا قصد کیا اور وہ مسلمان کہلاتا ہو تو وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فنفس المؤمن لا تستفي من هذا السباب اللعين الطاعن في سيد الاولين والآخرين الا بقتله وصلبه بعد تعذيبه وضربه فان ذلك هو اللاقى بحاله الزاجر لامثاله عن سبيء افعاله.

[رسائل ابن عابدين ص ۳۴۷ ج ۱]

جو ملعون اور موزی رسول اللہ ﷺ کی شانِ عالیٰ میں گستاخی کرے اور سب و شتم کرے اس کے بارے میں مسلمانوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک کہ اس خبیث کو سخت سزا کے بعد قتل نہ کیا جائے یا مولیٰ پر نہ لٹکایا جائے کیونکہ وہ اسی سزا کا مستحق ہے اور یہ سزا دوسروں کے لیے موجودہ عبرت ہے۔

شیخ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

جس نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دل میں بعض رکھا وہ مرتد ہو گیا اور شاتم رسول ﷺ تو اس سے بھی بدتر ہے ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور اس کی توبہ سے سزا سے موت موقوف نہیں ہوگی اور یہ مذہب اہل کوفہ اور اہام مالک کا بھی ہے۔ اور یہ حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

[فتح القدير شرح هدایہ]

ابراهیم بن حسین فقیہ لکھتے ہیں کہ:

شاتم رسول ﷺ کی سزا موت ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عمل صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں وہ حضرت خالد بن ولید دی اللہ عنہ کے واقعہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن نوریہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے ”حضرت خالد دی اللہ عنہ“ سے گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کو تمہارے ساتھی کہا تھا۔

مالکی مسلم کے فقیر اور قرطبه کی عدالت کے قاضی، قاضی عیاض نے اپنی

مشہور کتاب ”الشفاء“ میں توہین رسالت کے تمام پہلوؤں پر شرح و بسط سے گفتگو کرتے ہوئے شاتم رسول ﷺ کے جرم کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الصارم المسلول“ میں قرآن و سنت، تفاصیل صحابہ و تابعین اور دلائل و برائین سے یہ ثابت کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کو سزاۓ موت دی جائے اور اس سلسلہ میں توبہ قبل الاخذ اور بعد الاخذ یعنی گرفتاری سے قبل یا گرفتاری کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔

## کتاب الصارم المسلول لکھنے کا سبب

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ایک نصرانی نے رسول کریم ﷺ کی شان میں وشنام طرازی کی ہے تو وہ اسی وقت اپنی مجلسی درس و تدریس سے اٹھے اور اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ حاکم دمشق کے پاس پہنچے اور اس کے قتل کا مطالبہ کیا اس وقت ان کے ہمراہ علامہ زین الدین عبداللہ بن مروان الفاروقی بھی تھے۔ وہ عیسائی عوام کے غیض و غضب کے ذر سے ایک بدوسی کے گھر روپوش تھا۔ نائب السلطنت نے اس نصرانی اور اسے پناہ دینے والے بدوسی کو اپنی عدالت میں طلب کیا جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں موجود شہریوں کے ساتھ تلخ کلای کی جس پر مجمع مشتعل ہو گیا اور انہوں نے وہیں پر سنگ باری شروع کی جس پر نقصِ امن کی بنابر حاکم دمشق نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر تہڈی دکیا جسے ان دونوں بزرگوں نے نہایت صبر و استقامت سے برداشت کیا مقدمہ میں جب وہ نصرانی بری ہو گیا تو ان دونوں حضرات کو رہائی نصیب

ہوئی۔ نائب السلطنت نے اپنے اس بے جا اور ناروا سلوک پر ان دونوں سے معدرت طلب کی۔ اسی واقعہ کے سبب شیخ الاسلام نے اپنی یہ مایہ ناز کتاب ”الصارم المسلول“، لکھی اور مسئلہ ہذا کی پوزیشن واضح کی اور اپنی ایمانی غیرت اور محب رسول ﷺ کی کاشوت دیا۔

### شاتم رسول ﷺ کی توبہ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ القاضی اور ان کے بیٹے ابو الحسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ حضرت امام احمدؓ نے تصریح کی ہے کہ ایسا شخص ناقض عہد ہے۔ پھر سابق الذکر قاضی صاحب نے امام احمدؓ کی تصریحات نقل کی ہیں کہ اسے قتل کیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے حق کے ساتھ دو حق وابستہ ہوتے ہیں ایک اللہ کا حق اور دوسرا انسان کا حق اور سزا کے ساتھ جب اللہ اور بندوں کا حق وابستہ ہو تو وہ توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہو گا۔ مثلاً مغاربہ کی حد اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو بندوں کا حق جو کہ قصاص ہے ساقط نہیں ہو گا۔ البتہ اللہ کا حق ساقط ہو جائے گا۔

ابوالمواہب العسكری فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ پر بہتان لگانے سے حد مغلظ واجب ہو جاتی ہے جو کہ قتل ہے خواہ توبہ کرے یا نہ کرے اور خواہ ذمی ہو یا مسلم۔

## مرتد کی سزا

جو لوگ حصار دین میں داخل ہونے کے بعد دو بارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں تو مرتد کھلاتے ہیں ان کی سزا بھی قتل ہے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

من بدل دینہ فاقتلوه.

[صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدین، باب حکم المرتد (رقم: ۶۹۲۲)]

**شخص اپنادین [یعنی اسلام] تبدیل کر لے اسے قتل کیا جائے۔**

جو شخص مسلمان ہو کر اہانت رسول ﷺ کا ارتکاب کرتا ہے وہ مرتد ہے بلکہ مرتد سے بھی زیادہ سُکین مجرم ہے کیونکہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا قتل ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ جب کہ عام مرتد کی سزا توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہے چنانچہ مرتد کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جمهور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔

امام مالک اور امام احمدؓ کا بھی یہ یہی قول ہے کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے اور پھر مطالبہ کرنے کے بعد اسے تین دن کی مهلت دی جائے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ حنفیہ میں

سے امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے مرتد کو قتل نہ کیا جائے البتہ اگر وہ مهلت مانگے تو اسے تین دن کی مهلت دی جائے۔

[الصارم المصلول ص ۳۲۱]

رسول اللہ ﷺ کو گالی دینے سے ذمی کا عہد ٹوٹ جاتا ہے  
 جب کوئی ذمی ، اللہ ، اس کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کو گالی  
 دے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے اگر کوئی مسلمان  
 ہو کر اس کا ارتکاب کرے گا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے اس کے دلائل کتاب  
 و سنت ، اجماع صحابہؓ و تابعین اور قیاس میں پائے جاتے ہیں ۔ چنانچہ ذیل میں  
 اسی سلسلہ کی چند آیات ملاحظہ فرمائیں ۔

## آیات قرآنی

①

﴿وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِ وَهُمْ  
صَغِيرُونَ﴾۔ [توبہ: ۲۹]

”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور رسول  
آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس رسول ﷺ نے  
حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنادین نہیں  
باتے [ان سے لڑو] یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں  
ذلیل ہو کر۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریع میں لکھتے ہیں:

اس آیت کریمہ میں ہمیں اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے  
یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ ادا کریں۔ ان کے قتل سے اس وقت تک رکنا  
جا نہیں جب تک وہ ذلیل ورسوا ہو کر جزیہ ادا نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جزیہ دینے

کی صورت یہ ہے کہ وہ اسے ادا کریں اور اس کو حکومت کی تحویل میں دیتے وقت وہاں موجود رہیں۔ حتیٰ کہ حاکم وقت اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ وہ جب جزیہ دینے کا آغاز کریں گے اور ہم اس پر قابض ہو جائیں گے تو ہم ان سے کچھٗ تعریض نہ کریں گے۔ اس طرح جزیہ کی ادائیگی میکھیل پذیر ہوگی۔ اگر وہ ادائیگی کا التزام نہ کریں یا التراجم تو کریں مگر آخر کار ادا کرنے سے انکار کر دیں۔ تو انہیں جزیہ ادا کرنے والا قرار نہیں دے جائے گا اس لیے کہ ادائیگی کی حقیقت یہاں موجود نہیں اور جب اس پوری مدت میں ان کا ذلیل رہنا شرط ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص علانية ہمارے منہ پر نبی کریم ﷺ کو گالی دے، برباد ہمارے رب کو بُرا بھلا کہے اور ہمارے دین میں طعنہ زنی کا مرتكب ہو تو ایسا شخص ذلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ صاغر ذلیل اور حقیر کو کہتے ہیں اور جو کام یہ کر رہا ہے ایسے آدمی کو مغرور اور متکبر کہتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یہ شخص ہمیں ذلیل ورسا کر رہا ہے۔

جب ان سے لڑنا ہم پر واجب ہے تو قتیلہ وہ ذلیل ہوں اور وہ ذلیل نہیں ہیں۔ تو ہم ان سے لڑنے کے لیے مامور ہیں۔ اور جن کفار سے بھی ہمیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب ہم ان پر قابو پالیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے نیز یہ کہ جب ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے اس حد تک مامور ہیں تو اس سے کم درجے کا کوئی معاملہ ہم ان سے نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ اور وہ بدستور مباح الدم والمال رہیں گے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہوں گے کہ ہم نے امن کا معاملہ کیا ہے۔ اس طرح انہیں امان کا شبہ ہوگا۔ اور امانت کا شبہ اصلیٰ اور حقیقی امان کی مانند ہے۔ اس لیے کہ جو

شخص ایسی بات کرے جس کو کافر امان سمجھتا ہو تو اسے اس کے حق میں امام القبور کیا جائے گا۔ اگرچہ مسلمان کا ارادہ اسے امان دینے کا نہ ہو۔

اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے زیر سایہ ہوں اور اس کے باوجود ہمارے نبی ﷺ اور دین کو گالیاں دیتے رہیں۔ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ہم کسی ذمی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے۔

[الصارم المسلول ص ۱۱]

قاضی شناء اللہ پانی پتی "ذکورہ بالآیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وفی ذکر الله عزوجل بما لا يليق بحالله او ذكر كتابه  
المجيد او ذكر دينه القويم او ذكر رسوله الكريم بما لا  
ينبغى ينتقض عهده عند احمد سواء شرط منه ذلك او  
لا و كذلك قال مالك انه اذا ذكر منها بغير ما كفروا به  
ينتقض عهده وقال اكثر اصحاب الشافعى ان لم  
يشترط لا ينتقض عهده وان شرط ينتقض.

[تفسیر مظہری ج ۴ ص ۱۹۰]

اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے یا قرآن مجید یادِ دین اسلام کے متعلق نامناسب الفاظ ادا کرنے یا رسول اللہ ﷺ کی بابت ناشائستہ کلام کرنے سے امام احمدؓ کے نزدیک معاملہ ذمیت ثبوت جاتا ہے خواہ معاملہ کے وقت اس شرط کا تذکرہ آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ امام مالکؓ نے فرمایا: اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی شان میں

ایسے الفاظ کہے جو سابقہ کفر یہ عقیدہ وکلام کے علاوہ ہیں تو معاهدہ ذمیت ثوث جائے گا۔ امام شافعیؓ کے اکثر شاگردوں کا خیال ہے کہ معاهدہ میں اس کی شرط لگائی گئی ہو تو معاهدہ ثوث جائے گا کیونکہ یہ معاهدے کی خلاف ورزی ہو گی ورنہ نہیں ثوتے گا۔

## (2)

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا  
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لِكُمْ  
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقْيِنَ ☆ كَيْفَ وَإِنْ  
يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَ لَا ذِمَّةً إِنْ يُرْضُونَكُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَائِي قُلُوبِهِمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ﴾.

[توبہ: ۸-۷]

ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاهدہ کیا تھا۔ توجب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سواد و سرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاهدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔

ان آیات کی شرح میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

رسول کریم ﷺ نے جن لوگوں سے عہد کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا عہد بھی درست نہیں۔ البتہ اس قوم کا عہد درست ہے جو اپنے عہد پر قائم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرق کے ساتھ عہد اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں۔ واضح بات ہے کہ جو شخص بر ملا ہمارے رب تعالیٰ اور رسول ﷺ کو گالیاں دیتا اور دین اسلام کی تنقیص کرتا ہو وہ اپنے معاہدہ پر قائم نہیں ہے جس طرح عہد اس وقت ثوث جاتا ہے جب ہم اعلانیہ حرب ضرب کا آغاز کریں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ان کا یہ طرز عمل ہمارے لئے اس سے زیادہ ناگوار ہے۔ ہم پرواجب ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہم اپنی جان اور مال تک قربان کر دیں۔ اور ہمارے دیار و بلاد میں اعلانیہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت والا کوئی کام نہ کیا جائے جب وہ ایک معمولی کام میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے تو اس سے بڑے کاموں میں مستقل مزاج کیسے رہ سکتے ہیں؟

[الصارم المسلول ص ۱۳]

③

﴿وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ مَا بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يَمَانَ لَهُمْ لَعْلَهُمْ يَنتَهُونَ﴾.

[توبہ: ۱۲]

اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑا لیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ

کرو۔ کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید (پھر تلوار کے زور سے) وہ بازاً آئیں گے۔

قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ:

اگر ذمی لوگ تمہارے دین میں طعن کریں تو ان کا معابرہ ثوٹ جاتا ہے اور ان سے ہمیں لڑائی کرنے کا حکم ہے اور یہ شک و شبہ سے بالا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو گالی دینے سے بڑھ کر دین میں کوئی طعن نہیں۔ کیونکہ اس سے شریعت کی اہانت اور اسلام کی تذلیل ہوتی ہے۔

چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

ان النعمی اذا سبب الرسول ﷺ او سب الله او عاب  
الاسلام علانیة فقد نکث يمينه وطعن فی دیننا لأنه  
لا تحالف بین المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب

عليه. [الصارم المسلول ص ۱۶]

”ایک ذمی شخص اگر اللہ یا رسول اللہ ﷺ کو گالی دیے یا علانیہ اسلام میں عیب نکالے تو اس نے طعن فی الدین کا ارتکاب کر کے اپنی قسم کتوڑ دیا اس لے بلاخوف و نزع اسے سزادی جائے گی اور اس پر اس کی تأدیب کی جائے گی۔

نیز شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

وأما الشافعى فالمنصوص عنه نفسه ان عهده يتقضى  
بسب النبي ﷺ وانه يقتل. [الصارم المسلول ص ۸]

”امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نبی ﷺ کو گاہی دینے سے بھی معاهدہ ثبوت جاتا ہے پس اگر ذمی نبی ﷺ کو گاہی دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔

## 4

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدُءُوا وَ كُمْ أَوَّلَ مَرَّةً طَ اتَّخَذُوكُمْ هُمْ طَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

[توبہ: ۱۳]

”کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول ﷺ کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتداء کرنے والے وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈروان سے لڑا واللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزادے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔

یہ آیت اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جس شخص نے صرف تقض قسم کا ارتکاب کیا ہوا سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ معاهدہ بھی کیا جائے گا مگر دین کو طعن بنانے والے کے خلاف حرب و قتل ضروری ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا طریق کار بھی تھا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے اور دین کو ہدف طعن بنانے والوں کے خون کو مبارح

ٹھہر ادیتے تھے مگر دوسروں کو قتل کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

اس آیت میں کفار کے رسول اکرم ﷺ کے جلاوطن کرنے کے ارادے کو ان کے ساتھ جنگ کا محرك اور موجب قرار دیا ہے اس لیے کہ اس سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچتی ہے مگر آپ کو گالی دینا جلاوطن کرنے کے ارادے سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا تھا فتحِ کملہ کے روز ان کو رسول کریم ﷺ نے معاف کر دیا تھا مگر گالی دینے والوں کو معاف نہیں کیا تھا۔

بنا بریں ذمی جب رسول کریم ﷺ کو گالی دے گا تو اپنے عہد کو توڑ ڈالے گا اور ایسے فعل کا مرتكب ہو گا جو رسول کریم ﷺ کو جلاوطن کرنے کے ارادے سے بھی عظیم تر ہے اور چونکہ اس نے ایذا رسانی کی بنیاد ڈالی ہے لہذا اس سے لڑنا واجب ہے۔

## 5

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهُمْ وَيُنَصِّرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ★ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مُوْلَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾۔

[توبہ: ۱۴-۱۵]

”ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزادے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل مختدے کرے گا اور ان کے قلوب کی

جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا تو بہ کی توفیق بھی وے گا اللہ سب  
کچھ جانے والا اور دانا ہے۔“

یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ سینوں کو نقض عہد اور طعن سے شفادینا  
اور اس غصہ کو دور کرنا جواہل ایمان کے دلوں میں اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔  
شارع ﷺ کا اصل مقصود و مطلوب ہے۔ اور یہ اس صورت میں حاصل ہوتا ہے  
جب ابل ایمان جہاد کریں جیسا کہ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ  
عليکم بالجهاد فانه باب من ابواب الله يدفع الله به  
عن النفوس الهم والغم۔ [فیض القدیر ص ۳۲۸ ج ۴]

”جہاد کا دامن تھامے رکھو اس لیے کہ یہ اللہ کے دروازوں میں سے  
ایک دروازہ ہے اس کے ذریعہ اللہ دل سے ہم و نون کو دور کرتا ہے۔“

اس میں شبہ نہیں کہ جو ذمی رسول کریم ﷺ کو گالی دیتا ہے تو وہ اہل  
ایمان کو ناراض کرتا اور انہیں ایسا دکھ پہنچاتا ہے جو ان کا خون بہانے اور ان کا  
مال لینے سے بھی زیادہ المناک ہے۔

اس لیے کہ رسول کو گالی دینے سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے  
لیے غصب و جمیت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں اور اس سے بڑا غیظ و غضب  
مومن کے دل میں کسی اور چیز سے نہیں بھڑکتا۔ بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والا مومن  
صرف اللہ کے لیے ہی اس قدر غصب ناک ہو سکتا ہے۔ شارع ” چاہتے ہیں کہ  
اہل ایمان کے سینہ کو شفا حاصل ہو اور اس کا غم و غصہ دور ہو جائے اور یہ مقصود  
صرف گالی و بنی والے کو قتل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس کے حسب ذیل

وجوہ ہیں۔

۱:- اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کافر کسی مسلم کو گالی دے تو اس کی تعزیر و تادیب سے مسلمان کا غصہ دور ہو جاتا ہے اگر وہ رسول کریم ﷺ کو گالی دے اور اس کی تعزیر و تادیب سے مسلمان کا غصہ رفع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم ﷺ کو گالی دینے سے ایک مومن کو اتنا ہی غصہ آیا جو ایک مومن کو گالی دینے سے آیا ہے اور یہ باطل ہے۔

۲:- دوسری وجہ یہ ہے کہ کافر کو گالی دینے سے اسے اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کا مال لینے سے اتنا غصہ نہیں آتا۔ اگر ایک شخص کسی کافر کو قتل کر دے تو ان کا غصہ تبھی دور ہو گا اگر قاتل کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح ایک مسلم کا غصہ تبھی دور ہو گا جب رسول کریم ﷺ کا گولی دینے والے کو قتل کیا جائے یہی وجہ اولیٰ و افضل ہے۔

۳:- تیسرا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے جنگ کرنے کو وجہ شفا قرار دیا ہے اور کسی وجہ سے شفا کا مھول ناممکن ہے لہذا واجب ہٹھرا کہ اہل ایمان کے سینوں کو شفا دینے کے لیے قتل و قفال کے سوا دوسری کسی چیز کو اختیار نہ کیا جائے۔

۴:- چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول کریم ﷺ نے جو خواعہ کے اہل ایمان کے سینوں کو بنو بکر سے شفاذینا چاہی جوان سے لڑے تھے چنانچہ عین دوپھر کے وقت ان کو یہ اختیار دیا۔ جب کہ دیگر لوگوں کو آپ نے امان دے دی تھی۔ اگر بنو بکر کو قتل کئے بغیر بنو خواعہ کا غصہ دور ہو سکتا اور ان کے سینوں کو شفاظ

سکتی تو آپ ان کو قتل نہ کرتے جبکہ آپ نے دوسرے تمام لوگوں کو امان دے دی تھی۔

[الصارم المسلول ص ۲۰]

## ⑥

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لِكُمْ لِرُضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ☆ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا طَذْلِكَ الْغِرْزِيُّ الْعَظِيمُ﴾.

[توبہ: ۶۲-۶۳]

یہ لوگ تمہارے سامنے فتنمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول ﷺ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔

اگر رسول کریم ﷺ کو اذیت پہنچا کرو وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوتے تو ان کو یوں دھمکی دینا مناسب نہ ہوتا کہ مقابلہ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے اس وقت یوں کہتا ممکن ہوتا کہ انہیں معلوم ہے کہ مقابلہ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے مگر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ صرف ایذا دی ہے۔ اس طرح یہ آیت ان کی وعید پر مشتمل نہ ہوتی پس معلوم ہوا کہ یہ فعل مقابلہ کے عموم میں داخل ہے تاکہ مقابلہ کرنے والے کے لیے جو وعید ہے وہ ان کی وعید بن سکے اور کلام میں ربط و نظم یہاں وجہے۔

اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو امام حاکم رعیشیہ نے اپنی صحیح میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

ان رسول اللہ ﷺ کان فی ظل حجرة من حجره  
وعنده نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر  
بعين الشيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق  
فدعاه رسول الله ﷺ فقال علام تستمنى انت وفلان و  
فلان فانطلق الرجل فدعاهم فحلفو بالله واعتذروا اليه  
فأنزل الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ  
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ طَالِبُونَ  
إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾.

[المجادلة: ۱۸]

”رسول اللہ ﷺ اپنے حجروں میں سے کسی مجرہ کے سامنے میں تشریف فرماتھے اور آپ کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی بناگاہ سے دیکھنے والا ہوگا۔ وہ جب تمہارے پاس آئے تو اس سے بات چیت نہ کرنا۔ اندریں اثناء ایک نیلی آنکھوں والا شخص آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے بلا کر کہا تم اور فلاں فلاں اشخاص مجھے کالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ شخص چلا گیا اور ان کو بلا لیا انہوں نے قسم کھائی اور آپ سے مغدرت کی تباہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔  
پھر اس کے آگے فرمایا۔

7

»إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ«

[الجادلة: ۲۰]

یقیناً ذیل تین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کرتے ہیں۔

کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے مترنحوں ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ کی شانِ عالیٰ میں زبان دراز اگرچہ مسلمان ہو یا کافر ہو بغیر کسی اختلاف کے قتل کیا جائے گا اور یہی ائمہ اربعہ وغیرہم کا مذہب ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میں نے ابو عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کی شانِ عالیٰ میں زبان دراز کی یا تنقیص کا مرتكب ہوا مسلمان ہو یا کافر اس کا قتل کرنا ضروری اور واجب ہے۔

عبداللہ اور ابو طالب کی روایت میں ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ ان سے کہا گیا کہ اس بارے میں احادیث ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس بارے میں احادیث وارد

ہیں ان میں سے ایک ناپینا کی حدیث ہے جس نے ایک عورت کو قتل کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ میں اس عورت کو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں زبان درازی کرتے سناتھا۔

اور حصین سے مروی حدیث میں ہے کہ:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں زبان درازی کی تو اسے قتل کیا جائے گا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ مرتد ہے۔ اسلام سے خارج ہے اور مسلمان رسول اللہ ﷺ کی شان میں کبھی بے ادب نہیں کرتا۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو رسول اللہ ﷺ کی شان میں بے ادب کرتا ہے۔ آیا اس کو توبہ کے لیے کہا جائے گا؟ فرمایا اس کا قتل واجب ہے اور توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا تھا جس نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی اور انہوں نے اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ کو گالی دیا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی رسول اللہ ﷺ نے اس کے خون کو رائیگاں فرمایا۔

یہ حدیث شاتم رسول ﷺ کے قتل کے جواز پر نص ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث سے شاتم رسول ﷺ کے قتل کے جواز کا استدلال کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے تو آپ کو غصہ آیا تو انہوں نے آپ سے اس آدمی کے قتل کی اجازت چاہی اگر آپ انہیں حکم دے دیتے تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی بارگاہ میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو آپ کی خاطر قتل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایسے شخص کے قتل کا حکم کہاں فرماتے ہیں جس کے قتل کی وجہ لوگوں کو معلوم نہ ہو لوگوں پر آپ کی اس بارے میں اطاعت فرض ہے کیونکہ آپ وہی حکم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

یہ حدیث آپ کی دو خصوصیات کو متضمن ہے۔

۱:- قتل کے سلسلے میں آپ کی اطاعت کی جائے گی۔

۲:- یہ کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے گا جس نے آپ ﷺ کی شان میں زبان درازی کی ہے۔

حدیث کا مفہوم آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی

باقی ہے جس نے بھی آپ کی شانِ اقدس میں گستاخی کی اس کا قتل جائز ہے بلکہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی حرمت اکمل ہے اور آپ کی عزت کی خاطر کسی قسم کا تسابیل ناممکن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے بھی آپ کی شان میں گستاخی کی اس حدیث سے عموم سے مسلمان اور کافرونوں کے قتل کا اس کا قتل جائز ہے اس حدیث کے عmom سے مسلمان اور کافرونوں کے قتل کا استدلال کیا جائے گا۔

### 8

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ وَأَعَذَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

[الاحزاب: ۵۷]

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسول کو عذاب تیار کیا ہے۔“

یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت دینے والا واجب القتل ہے اور معاهدہ بھی اس کو نہ بچا سکے گا۔ اس لیے کہ ہم نے معاهدہ اس بات پر نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دے گا۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

من لکعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله .

[صحیح البخاری، کتاب المغازی باب قتل کعب بن اشرف]

”کعب بن اشرف کا کون ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذاء دی ہے۔“

اس حدیث میں آپ نے مسلمانوں کو ایک یہودی کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جس نے معاهدہ کیا ہوا تھا۔ حکم اس لیے کہ اس نے اللہ اور رسول ﷺ کو ایذاء دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ذمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اللہ اور کے رسول ﷺ کو ایذاء دیتا ہے ورنہ اس کے اور دوسروں کے درمیان کچھ فرق نہ رہے گا۔ ”اور یوں کہنا بھی صحیح نہیں کہ یہودی دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں جبکہ وہ اپنے مذہب کے واجبات پر قائم بھی ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اعلانیہ ایذاء دیں ہم نے تو ان کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے مذہبی احکام پر عمل پیرا رہیں۔

[الصارم المسلول ص ۲۷]

## ⑨

قرآن کریم نے منافقین کا کردار اور ان کی گستاخیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَلَ مِنْهَا الْأَذْلَّ وَلَلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾۔ [منافقون: ۸]

”یہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ

کے لیے اور اس کے رسول ﷺ کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ہے لیکن یہ منافق بے علم ہیں۔

یہ بات اس وقت پیش آئی جب رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے آپس میں اس قسم کی گفتگو کی۔ ابن ابی بن سلول کے بیٹے جو صحابی اور مخلص مسلمان تھے ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے باپ کی گردن پر تلوار لے کر سوار ہوئے اور یہ کہا کہ اگر تو نے یہ بات کہی ہے تو میں تمہی کو بھی قتل کرتا ہوں۔ ورنہ تو اس چیز سے توبہ کر اور اقرار کر کہ تو خود ذلیل ہے اللہ اور اس کا رسول ﷺ عزت والے ہیں۔ [ابن کثیر ج ۳ ص ۳۲۲]

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دوں۔

قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اگر کوئی منافق تہائی میں بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق صرف اتنی بات کرے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں۔ عزت والے نہیں تو اس کو بھی مستحق قتل شمار کیا جائے گا۔

## ⑩

اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے قبال کا حکم صادر فرمایا ہے۔

﴿فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَيَانٍ﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔

[الانفال: ۱۲-۱۳]

”پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوت لگا دیا اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔“

یہ آیات سورہ انفال ۲ میں اس وقت نازل ہوئیں جب کہ اسلامی ریاست معرض وجود میں آرہی تھی اور دشمنانِ اسلام اللہ کے رسول ﷺ کی مخالفت اور ایذا رسانی پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ اس پاداشِ جرم میں ان کے لیے یہ سزا تجویز ہوئی۔

## ۱۱

سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچانے والوں کو دردناک عذاب سے خبردار کیا گیا ہے فرمایا:

﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ دُقُلُ أَذْنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آتُوكُمْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُنَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔

[توبہ: ۶۱]

”ان منافقین میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی ﷺ کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری

بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان دار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“

اس آیت میں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت اور دشمنی میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف یا اذیت نہیں پہنچائی جا رہی ہے بلکہ صرف کافروں کا کچا کہہ کر جو لوگ آپ کو قلبی اور روحانی اذیت پہنچاتے ہیں وہ بھی گستاخی اور توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب کی وعید ہے۔

اسلام کے پیروکاروں پر تو رسول اللہ ﷺ کا ادب و احترام فرض ہے لیکن منکرینِ رسالت کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی دربار رسالت کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور انہیں ایسے ذمہنی الفاظ کے استعمال سے بھی روک دیا گیا جس میں خیر کے علاوہ شر کا معنوی پہلو بھی پوشیدہ ہو۔ چنانچہ وہ بد بخت یہودی جو شرارۃ اور بد نیتی سے ذمہنی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل آیت میں ان کے لیے سخت وعید نازل فرمائی۔

(12)

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَيْا بِالسَّتِيمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَاسْمَعْ وَ

اَنْظُرُنَا لِكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمْ وَ لِكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ  
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔)

[النساء : ۴۶]

”جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان  
کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دینِ حق کے خلاف نیش زنی کرنے  
کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موز کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر  
سمع اور راعنا حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ  
انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستبازی کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان  
کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم  
ہی ایمان لاتے ہیں۔“

ابو بکر جاصع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وهذا يدل على ان كل لفظ احتمل الخير والشر فغير  
جائز اطلاقه حتى يقييد بما يفيد الخير.

[احکام القرآن للحصاص / ۵۸]

”ہر وہ لفظ جس میں خیر و شر دونوں معنی کا احتمال ہو اس لفظ کا استعمال  
اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حدیا  
قید نہ لگائی جائے جس سے خیر کا پہلو نمایاں ہو۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لفظ ”راعنا“ کی تشریع کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:  
هذه الكلمة وان كانت صحيحة المعنى الا ان اهل  
الحجاج ما كانوا يقولونها الا عند الهزء و السخرية فلا

جرم نہیں اللہ عنہا۔

[تفسیر کبیر ص ۲۲۴/۳]

”اگرچہ یہ لفظ صحیح المعنی ہے جس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم سے رعایت کریں یا ہماری طرف توجہ کریں لیکن عربی میں اس لفظ کو بطور استہزاء بھی استعمال کیا جاتا تھا یعنی ایسے صاحب رعونت شخص کے لیے جو علم سے بے بہرہ ہو۔ اس کے علاوہ اس لفظ کو اگر صحیح معنی میں بھی استعمال کیا جائے تو اس سے برابری اور مساوات کا گمان ہوتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کے استعمال ہی کو منع کر دیا گیا۔“

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لفظ ”راعنا“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہودی جب رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام و کلام میں ہر ممکن طریقہ سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے۔ ذو معنی الفاظ بولتے زور سے کچھ کہتے زیرِ لب کچھ اور کہہ دیتے۔ ظاہر میں ادب و آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دلیقت اٹھانہ رکھتے تھے۔ لفظ ”راعنا“ ایک ذو معنی لفظ ہے۔ جب آپ کی گفتگو کے دوران یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے۔ ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے تھیے! تو وہ راعنا کہتے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجیے! او ہماری بات سن لیجیے! مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلاً عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا۔ جس کے معنی تھے ”سن تو بہرا ہو جائے“، گفتگو میں ایسے موقع پر بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنتو ہم تمہاری نہیں اور ذرا زبان لپکا کر ”راعینا“ بھی بنالیا جاتا تھا۔ جس کے معنی ”اے ہمارے

[تفہیم القرآن ۱/۱۰۰]

جواب ہے" کے تھے۔

امام شوکانی "لفظ" راعنا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فی ذلك دلیل علی انه ينبغي تحبیب الالفاظ المحتملة للسب و النقص و ان لم يقصد المتكلّم بها ذلك المعنى المفید للشتم سدّاً للذریعة و دفعاً للوسيلة و قطعاً للمادة المفسدة والتطرق اليه.

[فتح القدير ۱/۱۲۴]

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے تمام الفاظ جن سے توہین رسالت کا احتمال ہوا اگرچہ بولنے والے کی نیت توہین رسالت نہ ہو۔ پھر بھی ان کا استعمال قطعی طور پر منوع ہے۔

اس لیے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایسے ذمہ دار الفاظ سے قطعی طور پر احتراز کریں تاکہ شانِ رسالت میں کسی قسم کی پہاں اور پوشیدہ گستاخی کا احتمال بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(۱۳)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْيَمِّ﴾۔ [البقرة: ۱۰۴]

"اے ایمان والو! راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا [یعنی ہماری طرف التفات کیجئے] کہا کرو۔ اور توجہ سے بات سنو یہ کافر تو عذاب الیم

کے مستحق ہیں۔“

مولانا مفتی محمد شفیع ”لکھتے ہیں:

بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے حضور میں آکر لفظ ”راعنا“ سے آپ کو خطاب کرتے۔ جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بدعما کے ہیں اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے۔ مگر عربی زبان میں اس کے معنی ”ہماری مصلحت کی رعایت سمجھئے“ کے ہیں۔ اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکے اور اپنے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی آپ کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی آپس میں بیٹھ کر ہنتے تھے کہ اب تک ہم ان کو خفیہ ہی برائی کہتے تھے اب علانية کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آگئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس لفظ ”راعنا“ کا استعمال چھوڑ کر لفظ ”انظرنا“ استعمال کرو۔ تاکہ یہودیوں کی شرارت کامیاب نہ ہو سکے۔

[معارف القرآن ج ۱ ص ۲۸۰]

مذکورہ آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کافروں کو اپنے کئے کی سزا ضرور ملے گی۔ بعض صاحبانِ نظر نے اس آیت کے اسلوب بیان سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کو یہودیوں کے اس فتنہ پرور گروہ کا یہ گستاخانہ انداز تباخ طب اتنا گواہ رکا کہ ذاتِ الہی نے ان شریر یہودیوں سے خطاب کرنا بھی پسند نہیں فرمایا حالانکہ قرآن مجید میں اور دوسرے مواقع پر یہود و نصاریٰ کو جا بجا مخاطب کیا گیا ہے۔

امام شوکانی "حضرت عبد اللہ بن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

قال المؤمنون بعد هذه الآية من سمعتموه يقولها  
فاضربوا عنقه فانتهت اليهود بعد ذلك.

[فتح القدير ۱۲۵/۱]

اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا لفظ استعمال کرے جس میں توہین رسالت کا احتمال ہوتا تو اس کی گردن اڑادی جائے یہ دھمکی سن کر یہودی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے باز آگئے۔

اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی لفظ "راعنا" رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بطور طعن و تشنیع استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہودیوں سے کہا:  
 عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا نُسَمِّعُتُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَقُولُهَا  
 لِلَّهِ أَعُوْذُ بِهِ لَا أَضُرِّ بَنَّ عُنْقَهُ۔ [تفسیر قرطی ۵۷/۲]  
 اے یہودیو! تم پر لعنت ہو اللہ کی آئندہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو لفظ "راعنا" کہتے ہوئے ساتواں کی گردن اڑادوں گا۔

(۱۴)

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيَهُمْ  
 ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
 تَسْلِيمًا﴾۔ [السباء: ۶۵]

"اے محمد ﷺ آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب

تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یا آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بر تسلیم کر لیں۔“

اس آیت کا حکم صرف آپ کی زندگی تک مدد و نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی ﷺ نے عمل کیا ہے ہیں اور جس طریقہ پر اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے تحت آپ ﷺ نے عمل کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ سند ہے۔ اور اس سند کو مانتے یا نہ مانتے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اسی بات کو نبی ﷺ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:

لَأُوْيُّ مِنْ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُوْنَ هَوَاهَ تَبَعًا لِمَا جَعْتُ بِهِ.

[البغوى في شرح السنۃ، کتاب الایمان، باب رد البدع والامواء (رقم: ۱۰۴)]

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقہ کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔“

آیت مذکورہ کا شانِ نزول مشہور و معروف وہ واقعہ ہے جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کسی شخص سے نالیوں سے باغ میں پانی لینے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا: زبیر تم پانی پلا لو پھر پانی کو انصاری کے باغ میں جانے دو اس پر انصاری نے کہااں رسول اللہ! یہ تو آپ کی پھوپھی کے لڑ کے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ اور فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ تم پانی پلا لو پھر پانی رو کے رکھو یہاں تک کہ باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے پھر اپنے پڑوی کی طرف چھوڑ دو۔ پہلے تو رسول ﷺ نے ایک ایسی صورت نکالی تھی کہ

جس میں حضرت زیر اللہ عزیز کو تکلیف نہ ہوا اور انصاری کو کشادگی ہو جائے لیکن جب انصاری نے اسے اپنے حق میں بہتر نہ کیا تو آپ نے حضرت زیر اللہ عزیز کو ان کا پورا حق دلوادیا۔ حضرت زیر اللہ عزیز فرماتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے یہ آیت ”فلا وربك..... الخ“ اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔

[ابن کثیر، صحیح البخاری، کتاب المساقاة، باب سکر الانهار، رقم(۲۳۵۹) و مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه، رقم(۲۳۵۷)].

یہاں کچھ مفسرین نے آیت مذکورہ کے شانِ نزول کا ایک دوسرا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے جس کی روایت زیادہ غریب ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بظاہر مسلمان [جو اصل منافق تھا] اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملہ پر تنازع ہو گیا۔ دونوں اس سلسلہ میں آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا جس سے دوسرا فریق راضی نہ ہوا اور اس کے اصرار پر یہ دونوں معاملہ کو لے حضرت عمر بن عبد اللہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے ان دونوں کے بیانات سنے۔ اور جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اس بارے میں یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمائچکے ہیں تو آپ نے خود اس منافق سے اس کی تصدیق کر لی اور اس کے بعد اسی وقت تلوار سے ان منافق کا سر قلم کر دیا اس کے بعد فرمایا:

اقضى بقضاء رسول الله ﷺ فاتى جبريل رسول

الله ﷺ فقال ان عمر قد قتل الرجل وفرق الله بين

الحق والباطل على لسان عمر فسمى الفاروق.

[تفسیر الدر المثور للسيوطی ۲/ ۲۲۲]

جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلہ سے راضی نہ ہواں کا یہی فیصلہ ہے۔ مقتول کے ورثاء کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ آپ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ دائر کیا۔ جس پر سورہ نساء کی مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ”فاروق“ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اور آیتہ مبارکہ کے شانِ نزول کی روشنی میں یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا بھی توہین اور گستاخی کا موجب ہے جس کی تصدیق سورہ نساء کی اس آیت نے کر دی ہے۔ اگر کوئی کافر یا منافق توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ ایک مسلمان جس کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان ہے وہ آپ کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی یا سوء ادبی برداشت کر سکتا ہے۔

15

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِيزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِشَسَّ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُّبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

اے ایمان والو! نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فتن میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ اس روشن سے بازنہ آئیں وہی ظالم ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں:

مذاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ کسی کی نقل اتنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، اس کے کسی شخص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر نہیں یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور پر تفحیک کرے کیونکہ اس تفحیک میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تذلیل اور تحقیر کے جذبات کا فرمایا ہوتے ہیں جو اخلاقاً قاخت معیوب ہیں۔ مزید برآں اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ جس سے معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے۔ اس بنابر اس فعل کو حرام کیا گیا ہے۔

[تفہیم القرآن ص ۵/۸۵]

قُلُوبُهُمْ مُقْلِلٌ أَسْتَهْزِئُ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذِرُونَ ☆  
وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كَانَ نَحْوُضُ وَنَلْعَبُ مُقْلِلٌ أَبَا اللَّهِ وَ  
أَبِيهِ وَرَسُولِهِ كُتُمْ تَسْتَهْزِئُ وَنَلْعَبُ لَا تَعْتَدُرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ  
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعْذِبُ طَائِفَةً  
بَانَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ॥ [التوبہ: ۶۴-۶۵] ۱۶۶

”یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی! ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وهذا نص في ان الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسبب المقصود بطريق الاولى وقد دلت هذه الآية على ان كل من تنقص رسول الله ﷺ حادا او هازلا فقد كفر. [الصارم المسلول ص ۳۲]

”یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس

کے رسول ﷺ کا مذاق اڑانا کفر ہے پس گالی دینا بطریق اولی مقصود ہے یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص رسول کریم ﷺ کی توبین کرے خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق سے ہو یا ازراہ مذاق وہ کافر ہو جاتا ہے۔

غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر انہی مسلموں میں بیٹھ کر رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہی تضخیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا جی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورا ماجوڑ نے تشریف لائے ہیں رسمیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا مزا ہو جو اوپ سے سو سو کوڑے لگانے کا بھی حکم ہو جائے ایک اور منافق نے رسول ﷺ کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھئے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ایک منافق نے غزوہ تبوک میں کہا میں نے اپنے ان قاریوں جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا جن کے پیٹ اتنے رعب دار ہوں جن کی زبان اتنی جھوٹی ہو اور جو جنگ میں ان سے زیادہ بزدل ہوں اس کی مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تم

منافق ہو اور جھوٹ کہتے ہو میں رسول اللہ ﷺ کو اس سے آگاہ کر دوں گا چنانچہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو بتانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ اس بارے میں پہلے ہی قرآن نازل ہو چکا ہے۔ یہ شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت سفر کے لیے اپنی اونٹی پر سوار ہو چکے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! ہم نہیں مذاق کرتے تھے۔ جس طرح قافلہ والے کرتے ہیں اور اس طرح اپنا سفر طے کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ رسول کریم ﷺ کی ناقہ کی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ پھر اس کے پاؤں زخمی کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف کھیل تماشا کر رہے تھے۔ رسول کریم ﷺ اسے فرمایا ہے تھے کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے۔

[الصارم المسلول ص ۳۳]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر لکھتے ہیں:

ان لوگوں نے جب رسول کریم ﷺ اور آپ کے اہل علم صحابہؓ کی تحقیر اور مذمت کی اور آپ کی باتوں کو اہمیت نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اگرچہ انہوں نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی پھر جو چیز اس سے شدید تر ہو گی اس کا کیا حال ہو گا؟ ان پر حد اس لیے نہ لگائی کہ ابھی منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخلاف ازیں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی ایذاء رسانی کو نظر انداز کر دیں نیز اس لیے کہ آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ کی تحقیر کرنے والوں کو معاف کر دیں۔

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۝ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾.

[النوبه: ۵۸]

”اے نبی! ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگرنے لگتے ہیں۔“

مولانا مودودی مرحوم لکھتے ہیں:

عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھتے تھے با قاعدہ زکوٰۃ عائد کی گئی تھی اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے مویشیوں سے، ان کے اموال تجارت سے، کان کی معدنیات سے اور ان کے سونے، چاندی کے ذخائر سے ۲۵ فیصد، ۵ فیصد، ۱۰ فیصد اور ۲۰ فیصد کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی تھی۔ یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقہ سے وصول کئے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقہ سے خرچ کئے جاتے اس طرح نبی ﷺ کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سست کر آتی اور آپؐ کے ہاتھوں خرچ ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کو پانی بھر آتا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس بستے ہوئے دریا سے ان کو خوب سیر ہو کر پینے کا موقع ملے۔

مگر یہاں پلانے والا خود اپنے اوپر اور اپنے متعلقین پر اس دریا کے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا اور کوئی یہ موقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مستحق لوگوں کے سوا کسی اور کے لب تک جام پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین رسول اللہ ﷺ کی تقسیم صدقات کو دیکھ کر دلوں میں کڑتے تھے اور تقسیم کے موقع پر آپ کو طرح طرح کے الزامات سے مطعون کرتے تھے دراصل شکایت تو انہیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دست درازی کا موقع نہیں دیا جاتا مگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم، انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانب داری سے کام لیا جاتا ہے۔ [تفہیم القرآن ۲/۲۰۳]

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

روایت میں ہے کہ ایک نومسلم صحراًی رسول اللہ ﷺ کو سونا چاندی تقسیم کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا اگر اللہ نے آپ ﷺ کو عدل کا حکم دیا ہے تو آپ عدل نہیں کرتے آپ نے فرمایا تیراستیا ناس ہوا گر میں بھی عادل نہیں تو زمین پر کون عادل ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا اس سے اور اس جیسوں سے بچو۔ میری امت میں اس جیسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ جب نکلیں ان کو قتل کر ڈالو پھر نکلیں پھر مار ڈالو پھر جب ظاہر ہوں پھر گرد نہیں مارو۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی نہ میں تمہیں دوں نہ تم سے روکوں میں تو ایک خازن ہوں۔ [تفہیم ابن کثیر ۳/۳۱۰]

جنگ خنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ذوالخویصرہ حرقوص نامی شخص نے آپ پر اعتراض کیا اور کہا:

اعدل فانک لم تعدل فقال لقد خبت و خسرت ان لم  
اکن اعدل ثم قال رسول الله ﷺ وقد رآه مقتضايا انه  
يخرج من ضئضى هذا قوم يحرق احدكم صلاته مع  
صلاتهم وصيامهم مع صيامهم يمرقون من الدين مروق  
السهم من المرمية فايديما لقيتموه فاقتلوهم فانهم شر  
قتلة تحت اديم السماء۔ [تفسير ابن کثیر ۴۱۱/۳]

”آپ عدل نہیں کرتے، انصاف سے کام کریں، آپ نے فرمایا  
ہگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو پھر تو بر باد ہو اور تیر استیاناں ہو جب وہ  
منہ پھیر کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے  
گی جن کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور  
روزوں کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے  
تیر تکار سے تمہیں جہاں بھی وہ مل جائیں ان کے قتل میں کمی نہ  
کرو۔ آسمان تلنے ان مقتولوں سے بدتر مقتول اور کوئی نہیں۔“

18

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا  
أَصْوَاتَكُمْ فَرُوقٌ صَوْتٌ النَّبِيٌّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ  
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾  
إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

امْتَحِنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ☆ إِنَّ  
الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُّرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

[الحجرات: ۴-۲-۱]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش  
قدی نہ کرو اور اللہ سے ڈر و اللہ سب کچھ سنئے اور جانئے والا ہے۔  
اے لوگو جو ایمان لائے ہوا پنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ  
نبی کے ساتھ اوپنی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں  
ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا  
سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ  
ﷺ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ  
درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جائیج  
لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی جو لوگ تمہیں  
جرموں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“

وہ ہستی ساری انسانیت کے لیے واجب الاحترام ہے اس کے دربار  
رسالت میں ادب و احترام سے گفتگو اور تنخاطب کے آداب بھی قرآن مجید نے  
اہل ایمان کو سکھائے ہیں آپ کی مخالفت اور دشمنی تو صریحاً کفر ہے۔ لیکن آپ  
کی شان میں کسی قسم کی سویع ادبی بھی غارت گرامیں اور اعلان کفر ہے۔

سورہ حجرات کا موضوع ہی اہل ایمان کو دربار رسالت میں آداب کی  
تعلیم دینا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو واضح طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ  
رسول اللہ ﷺ کے سامنے تقڈم اور پیش قدی نہ کرو۔ کس چیز میں پیش قدی کو

منع فرمایا ہے قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں رسول اللہ ﷺ سے پیش قدی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ ﷺ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں آپ ہی کسی کو جواب کے لیے مامور فرمادیں تو وہ جواب دے سکتا ہے اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے۔ کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا نہ شروع کرے مگر یہ کہ آپ کی تصریح یا قرائیں قویہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجا چاہتے ہیں جیسے سفر اور جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا۔

علمائے دین اور دینی مقتداوں کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء اور ائمہ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں اور دلیل اس کی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاں کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر افضل ہو۔

اس لئے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاذ کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

**لَا تَرْفُوْا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** : یہ دوسرا وہ ادب ہے جو

رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس کا منشاء یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہوں۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ﷺ سے مخاطب ہیں۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے اور کسی کو آپ سے اوپنجی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔

یہ ادب اگرچہ نبی ﷺ کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور ﷺ کے زمانے میں موجود تھے۔ مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں اس کے علاوہ اس آیت سے یہ ایماء بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے بزرگ تر اشخاص کے ساتھ گفتگو میں کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے کسی شخص کا اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح بولنا جس طریقہ وہ اپنے دوستوں سے یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔

## آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام عنہم کا حال

رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا

کیا کرتے ہیں۔ ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے۔ چنانچہ اس کے نزول سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے کہ اب مرتبے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔

[درمنثور للسيوطی ص ۷۸]

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ

پوچھنا پڑتا تھا۔

[جامع الترمذی، أبواب التفسیر عن رسول الله ﷺ، باب سورۃ الحجرات]

اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے۔ یہ آیت سن کروہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو پست کیا۔

[درمنثور للسيوطی ص ۷۹]

روضہ رسول ﷺ کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے  
سلام و کلام کرنا منع ہے

قاضی ابو بکر بن عربیؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مجلس میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و غثب کرنا بے ادبی ہے کیونکہ آپؐ کا کلام جس وقت آپؐ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب و ضروری تھا اسی طرح وفات کے

بعد جس مجلس میں آپ ﷺ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔  
جس طرح تقدّم علی النبی ﷺ کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث  
انبیاء ﷺ ہونے کے داخل ہیں اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ علماء کی  
مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے ان کی آواز دب جائے۔

[تفسیر قرطبی ۱۶ / ۳۰۷]

**شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ** لکھتے ہیں:

فإذا كان الأذى والاستخفاف الذى يحصل فى سوء  
الادب من غير قصد صاحبه يكون كفرا فالاذى  
والاستخفاف المقصود المعتمد كفر بطريق الاولى.

[الصارم المسلول ص ۵۵]

”جب ایسی تکلیف و استخفاف جو بلا قصد ہونے کے باوجود سوء  
ادب اور کفر میں داخل ہے تو پھر جو استخفاف اور تکلیف عمدًا اور  
بالقصد کی جائے تو اس کے صریح کفر ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے  
تو یہ تو بطريق اولی کفر شمار ہوگا۔“

**امام قرطبی** ”لکھتے ہیں:

وليس الفرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به  
الاستخفاف والاستهانة لأن ذلك كفر والمخاطبون  
مؤمنون.

[الجامع لاحکام القرآن ۱۶ / ۳۷۰]

”اس آیت میں جس بلند آواز سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی بلند آواز  
نہیں جس کا مقصد رسول اللہ ﷺ کا استخفاف و اہانت ہو کیونکہ

ایسی بلند آواز تو کفر ہے اور یہ خطاب بھی اہل ایمان سے ہے جن کے لیے آپ کی ذاتِ گرامی اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ آپ ہی سر اپا دین ہیں۔“

علامہ آلوی بغدادیؒ لکھتے ہیں:

والقاعدۃ المختارۃ ان ایذاءہ علیہ الصلوۃ والسلام یبلغ مبلغ الکفر المحبط للعمل باتفاق فورد النہی عما هو مظنة لاذی النبی ﷺ سواء وجد هذا المعنى او لا حماية للذریعة و حسمًا للتمادی.

اروح الشعانی ص ۱۳۶ ج ۱۲۶

یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی قول یا فعل کے ذریعہ تکلیف پہنچانا کفر ہے جس سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں لہذا ایسے اعمال سے بھی منع فرمایا گیا ہے جس سے آپ کو اذیت پہنچنے کا احتمال ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْجُحُورِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

اس آیت میں نبی ﷺ کا ایک تیرا ادب سکھایا گیا ہے کہ جس وقت آپ ﷺ اپنے مکان اور آرامگاہ میں تشریف فرمائیں اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ ﷺ کو پکارنا خصوصاً گنوارپن کے ساتھ کہ نام لے کر پکارا جائے یہ بے ادبی ہے، عقل والوں کے یہ کام نہیں۔ مجرمات مجرمہ کی جمع ہے۔ اصل افت میں مجرمہ ایک چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن ہو کچھ مسقف عمارت ہو نبی ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں نہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مجرمہ الگ الگ تھا جن میں آپ باری

باری تشریف فرماتے تھے۔

## حجرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم

ابن سعد نے بروایت عطاء خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کجھور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”الأدب المفرد“ میں اور امام بیہقی نے داؤد بن قیس سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے۔ میراگمان یہ ہے کہ جمیرہ کے دروازہ سے مسقف بیت تک چھ سات ہاتھ ہو گا۔ اور بیت (کمرہ) دس ہاتھ اور چھت کی اوپرچائی ساتھ آٹھ ہاتھ ہو گی۔ یہ حجرات امہات المؤمنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیئے گئے۔ مدینہ میں اس روز لوگوں پر آہ و بکا طاری تھی۔

[تفسیر روح المعانی ۱۳۹/۲۶]

## آیت مذکورہ کا شانِ نزول

امام بغویؒ نے بروایت قادہ رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے کہ قبلہ بنتیم کے جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یہ ذوبہر کے وقت مدینہ میں پہنچے جبکہ آپ کسی جمیرہ میں آرام فرمائے تھے۔ یہ لوگ اعرابی تھے، آداب معاشرت سے ناقاف تھے۔ انہوں نے حجرات کے باہر ہی سے پکارنا شروع کر دیا ”أُخْرُجُ إِلَيْنَا يَا مُحَمَّدُ“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس طرح پکارنے کی ممانعت اور انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ منداحمد، ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت مختلف الفاظ سے آئی ہے۔

**تبییہ:** صحابہؓ و تابعینؓ نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب میں کسی عالم صحابیؓ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازہ پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازہ کے باہر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لا میں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا وہ مجھے دیکھ کر فرماتے ”اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی آپ نے دروازہ پر دستک دے کر کیوں نہ اطلاع کر دی تھی۔“ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبیؓ کے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ ہنفیؓ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازہ پر جا کر دستک نہیں دی بلکہ ان کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لا میں گے اس وقت ملاقات کروں گا۔

[اروج النعانی ۱۴۴/۲۶]

(19)

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَنْكُمْ كَدُعَاءً بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِأَ فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

[سورة سور: ۶۳]

”مسلمانوں اپنے درمیان رسول ﷺ کے بلاں کو آپس میں ایک دوسرے کا سابلانا نہ سمجھ بیٹھو اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سنک جاتے ہیں

رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آئے۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ”دُعَاء الرَّسُولِ“ سے مراد رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو بلانا ہے [جو نحوی قاعدہ سے اضافت الی الفاعل ہے] اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں ”آنے، نہ آنے“ کا اختیار رہتا ہے بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔

اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے نقل کی ہے کہ ”دُعَاء الرَّسُولِ“ سے مراد لوگوں کا رسول اللہ ﷺ کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا ہے [جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی] اس تفسیر کی بنابر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب تم رسول اللہ ﷺ کو کسی ضرورت سے بلا و یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لے کر یا محمد نہ کہو کہ بے ادبی ہے بلکہ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو۔ اس کا حاصل رسول اللہ ﷺ کی تعظیمی و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچے یہ حکم ایسا ہو گا جیسے سورہ حجرات میں اس طرح کے کئی حکم دیئے گئے ہیں جن کا ذکر تفصیل سے ہم کرچکے ہیں۔

تنبیہ: - اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں، بڑوں کو ان کے نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے

تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك  
أو من العذاب الاليم دل على انه قد يكون مفضيا الى  
الكفر أو العذاب الاليم ومعلوم ان اقضاءه الى العذاب  
هو مجرد فعل المعصية فاقضاءه الى الكفر انما هو لما  
قد يقترن به من استخفاف بحق الامير كما فعل ابليس  
فكيف لما هو اغلظ من ذلك كالسب والانتقاد  
ونحوه؟ وهذا باب واسع مع انه بحمد الله مُجمع عليه  
لكن اذا تعددت الدلالات تعاصرت على غلط كفر  
الساب وعظم عقوبته وظهر ان ترك الاحترام للرسول  
وسوء الادب معه مما يخاف معه الكفر المحبط كان  
ذلك ابلغ فيما قصدنا له۔ [الصارم المسلول ص ۵۷]

جب آپؐ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے کو کفر و شرک  
اور عذاب الیم سے ڈرایا گیا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے  
کہ آپؐ کے حکم کی خلاف ورزی کفر یا عذاب الیم تک پہنچانے والی  
ہے۔ ظاہر ہے کہ عذاب تک پہنچانا محض فعل معصیت کی وجہ سے  
ہے اور کفر تک پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کے ساتھ ساتھ اس  
میں حکم دینے والے "رسول کریم ﷺ" کی تحیر و استخفاف بھی  
 شامل ہو جاتا ہے پھر اس فعل کی سزا کیا ہوگی جو اس سے شدید تر ہے

مثلاً آپ ﷺ کو گالی دینا اور تحریر کرنا وغیرہ نہایت وسیع باب ہے تاہم محمد اللہ اس پر اجماع ہو چکا ہے اور جب دلائل متعدد ہوں تو گالی دینے والے کے کفر اور اس کی سزا کی شدت کے مسئلہ کو مزید تائید و تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ رسول ﷺ کا عدم احترام اور سوء ادبی ایسے کفر کی موجب ہو سکتی ہے جس سے جملہ اعمال غارت ہو جائیں اس نے ہمارا مقصد بڑے بلغ ترین انداز سے پورا ہو جائے گا۔

20

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا لَا تَدْخُلُوا يُبُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِيْنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طِعْمَتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لَا مُسْتَأْنِسِنَ لِحَدِيْثٍ طَإِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ... ) [الاحزاب: ۵۳]

اس آیت میں دعوت طعام اور مہمانی کے متعلق تین احکام کلیاتیں ہے اور حکم اگرچہ عام ہے مگر سبب نزول چونکہ خاص واقعہ رسول اللہ ﷺ کے مکان میں ہوا اس لیے عنوان میں بیوت النبی ﷺ کا ذکر فرمایا گیا۔

پہلا حکم یہ ہے کہ نبی ﷺ کے مکانات میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ لَا تَدْخُلُوا يُبُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ..

قدیم زمانہ میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں

چلے جاتے تھے کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں؟ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سے خرایوں کا موجب تھا اور بسا اوقات اس سے بہت گھناؤ نے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہو جاتا تھا اس لیے پہلے نبی ﷺ کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خواہ قربی دوست یا دور پرے کا رشتہ دار، ہی کیوں نہ ہو آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں پھر سورہ نور میں اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں راجح کرنے کا عام حکم دے دیا گیا۔

آیت میں دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب داخل ہونے کی اجازت بلکہ کھانے کی دعوت بھی ہو تو وقت سے پہلے آ کر کھانا تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ ”غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ“ ناظر کے معنی اس جگہ منتظر کے ہیں اور لفظ ادا بکسر همزہ کھانا پکنے کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نہ بلا اجازت داخل ہو اور نہ وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو بلکہ وقت پر جب بلا یا جائے اس وقت مکان میں داخل ہو۔

جو غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ منه پھاڑ کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے آپ تشریف لے جائے تو بے مرمتی ہے۔ کھلائے تو آخر

اچانک آئے ہوئے کتنے آدمیوں کو کھلانے ہر وقت ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب جتنے آدمی بھی اس کے ہاں آجائیں ان کے کھانے کا انتظام فوراً کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جبکہ گھر والا کھانے کی دعوت دے یہ حکم صرف نبی ﷺ کے گھر کے لیے خاص نہ تھا بلکہ اس نمونے کے گھر میں یہ قواعد اسی لیے جاری کئے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں عام تہذیب کے ضابطے بن جائیں۔

اس آیت میں تیرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے کاموں میں منتشر ہو جاؤ دعوت کے گھر میں باہم باتیں کرنے کے لیے جم کرنہ بیٹھو فِإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتُشِرُواْ وَ لَا مُسْتَأْسِفُواْ لِحَدِيْثٍ۔ یہ ایک اور بیہودہ عادت کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلاۓ جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پروانہیں ہوتی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے ناشائستہ لوگ اپنی عادت سے نبی ﷺ کو بھی تنگ کرتے تھے اور آپ اپنے اخلاقی کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ آخر کار حضرت زینب بنت علیہ السلام کے ولیے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیے کی دعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے تنگ آکر رسول

الله ﷺ اٹھے اور ازاوج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا اپنے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے اچھی خاصی رات گذر جانے پر جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تو آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فَإِنَّ الْمُؤْذِنَى لَهُ هَنَا اطْالَتْهُمُ الْحَلُوسُ فِي الْمَنْزِلِ  
وَاسْتَعْنَاهُمْ لِلْحَدِيثِ لَا إِنْهُمْ أَذْوَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْفَعْلُ إِذَا  
أَذْى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبَهُ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ وَلَمْ  
يَقْصُدْ صَاحِبَهُ إِذَا فَانَّهُ يَنْهَا عَنْهُ وَيَكُونَ مُعْصِيَةً كَرْفَعَ  
الصَّوْتُ فَوْقَ صَوْتِهِ فَإِنَّمَا إِذَا قَصَدَ إِذَا وَكَانَ مَا يُؤْذِيهِ  
وَصَاحِبَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ وَاقْدَمَ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِحْضَارِ هَذَا  
الْعِلْمِ فَهَذَا الَّذِي يَوْجِبُ الْكُفْرَ وَحْبُوتُ الْعَمَلِ.

[الصارم المسلول ص ۵۷]

اس آیت میں جس ایزاد دینے والی چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول کریم ﷺ کے گھر میں دریک بیٹھے رہنا اور باتوں میں لگے رہنا ہے یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام ﷺ رسول کریم ﷺ کو ایزاد دیتے تھے۔ اور کسی فعل سے جب رسول کریم ﷺ کو تکلیف پہنچتی ہو مگر اس کے فاعل کو معلوم نہ ہو کہ وہ آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ اذیت پہنچانے کا ہو تو پھر بھی اس فعل

سے اسے روکا جا رہا ہے اور فعل گناہ کا موجب ہے جیسے رسول کریم ﷺ کی آواز سے زیادہ اوپنچی آواز میں بولنا مگر جب وہ قصد آیذا دے رہا ہو اور اسے معلوم بھی ہو کہ وہ آپ ﷺ کو آیذا دے رہا ہے اور اس علم کے استحضار کے باوجود وہ اس کی جمارت کر رہا ہو تو یہ فعل کفر اور حبوطِ اعمال کا موجب ہے۔

## 21

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوهُ أَزْوَاجَهُ، مِنْ مَبْعَدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

[الاحزاب: ۵۳]

”تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔“

ازواجِ مطہرات نبی ﷺ کا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح جائز نہیں۔ آیت کے پہلے جملے میں تو عام الفاظ میں ایسے ہر قولِ فعل کو حرام کر دیا گیا جس سے رسول اللہ ﷺ کو آیذا و تکلیف پہنچا اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ کی ازواجِ مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح حلال نہیں۔

آیت مذکورہ میں اوپر حصے احکام آئے ہیں ان میں اگرچہ خطاب رسول اللہ ﷺ اور آپ کی ازواجِ مطہرات نبی ﷺ کو ہوا ہے مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے بجز اس آخری حکم کے کہ عام امت کے لیے قانون یہ

ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ازواج مطہراتؓ کے لیے یہ خصوصی حکم ہے کہ وہ آپؐ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بخش قرآن امہات المؤمنین ﷺ ہیں اور اگرچہ ان کے امہات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک اتنا نکاح کا حکم دیا گیا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شرعی قاعدے سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت حذیفہؓ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی۔

[تفسیر قرطبی ۱۴/۲۲۹]

اس لیے ازواج مطہرات ﷺ جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپؐ ﷺ کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اس کو آخرت اور جنت میں باقی رکھنے کے لیے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا۔

اس کے علاوہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لیے شرعاً ضروری نہیں رسول اللہ ﷺ کی اس طبعی خواہش کا بھی حق تعالیٰ نے احترام فرمایا آپؐ کا خصوصی اعزاز ہے۔

ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جواز ازواج مطہرات رسول اللہ ﷺ کی وفات تک آپ کے حرم میں رہیں ان سب کا یہی حکم ہے لیکن جن کو آپ نے طلاق دے دی یا کسی وجہ سے وہ آپ کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئیں ان کے بارے میں فقهاء امت کے مختلف اقوال ہیں جن کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر "الجامع لاحکام القرآن" میں تفصیل سے لکھا ہے۔

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح ایذا و تکلیف پہنچانا یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اگناہ ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اس آیت میں امت مسلمہ پر ہمیشہ کے لیے نبی ﷺ کی ازواج کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے آپ ﷺ کو ایذا پہنچتی ہے پھر اس کی حرمت کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک عظیم جرم قرار دیا گیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب بعض لوگوں نے کہا اگر رسول کریم ﷺ وفات پا گئے ہوتے تو حضرت عائشہؓ پہنچا عقد ہاتا کر لیتیں جو شخص آپ کی ازواج یا ولڈیوں کے ساتھ نکاح کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ حرمت نبوی ﷺ کو توزنے کی برابری تو قیاس بریں نبی ﷺ کو گالیاں دینے والا بالا ولی اس سزا کا مستحق ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت انسؓ پہنچنے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کو رسول کریم ﷺ کی اُمِ ولد کے ساتھ متعتم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ جا کر

اسے قتل کر دو۔ حضرت علیؓ اس کے پاس آئے تو وہ ایک شب میں نہار ہاتھا حضرت علیؓ نے اسے نکلنے کو کہا اور وہ اپنا ہاتھ اسے پکڑوا کر اسے باہر نکالا جب دیکھا تو اس کا آله تناصل کثا ہوا تھا حضرت علیؓ اس کے قتل سے باز رہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ وہ مقطوع الذکر ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے آپ کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ آپ نے اس پر زنا کی حد لگانے کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے کہ زنا کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ شادی شدہ کو جرم کیا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور حد بھی اس صورت میں لگائی جاتی ہے اگر چار گواہ موجود ہوں یا وہ بذاتِ خود اعتراف جرم کرے۔

جب رسول اللہ ﷺ نے یہ تفصیل معلوم کئے بغیر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ آیا وہ شادی شدہ ہے یا مجرد تو اس سے معلوم ہوا کہ قتل کا حکم اس کی حرمت شکنی کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو گواہوں نے آپ کے سامنے شہادت دی ہو کہ انہوں نے اس کو اس عورت کے ساتھ مباشرت کرتے دیکھا تھا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں شہادت دی ہو اور آپ نے اس قتل کرنے کا حکم دیا جب پتہ چل گیا کہ وہ مقطوع الذکر ہے تو معلوم ہوا کہ اس فساد کا کوئی اندیشہ نہیں ہے یا آپ نے حضرت علیؓ کو اس واقعہ کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا ہو کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اسے قتل کر دیا جائے اسی لیے آپ نے اس واقعہ یا کسی اور واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

اُکون کالسیکہ المحمّة ام الشاهد یری مالا یری الغائب۔

”میں گرم سکے مانند ہوتا ہوں یا یہ کہ حاضر آدی وہ کچھ دیکھتا ہے جو

غائب نہیں دیکھتا۔“

اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنت قیس بن معدیکرب سے جو اشاعت کی بہن تھی نکاح کیا مگر اس کو گھر میں آباد کرنے سے پہلے وفات پائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اسے اختیار دیا کہ یا تو دیگر ازدواج کی طرح پرده میں رہو اور یا مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کے ساتھ نکاخ کرلو اس نے نکاح کرنے کو ترجیح دی جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے حضرموت میں اس سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کے گھر نذرِ آتش کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت امہات المؤمنین سے نہیں نہ ہی آپ کے ہاں آباد ہوئی ہے اور نہ ہی اس کو حرم سرا میں داخل کیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرؓ کے خلاف یہ احتجاج کیا کہ مرتد ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ازدواج میں شامل نہیں رہی۔

اندازِ استدلال یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس عورت اور مرد کو جلانے کا عزم کیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ آپ ﷺ کی ازدواج مطہرات میں سے ہیں حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے ان سے مناظرہ کیا کہ وہ آپ کی ازدواج میں سے نہیں ہیں اس لیے آپ اس سے باز رہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رسول کریم ﷺ کی حرمت توڑنے والے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قتل کرنا زنا کی حد تھی۔ اس لیے کہ وہ عورت اس پر حرام تھی اور جو شخص ذات

محرم سے نکاح کرے اس پر زنا کی حد لگائی جاتی ہے یا اسے قتل کیا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں:

۱:- یہ کہ زنا کی حدرج ہے۔

۲:- یہ کہ حد لگانے کے لیے جماع کا ثبوت مطلوب ہے یا تو شہادت قائم ہونے سے ہوتا ہے یا اقرار سے۔

حضرت ابو بکرؓ نے جب ان کے گھر کو جلانے کا ارادہ کیا حالانکہ یہ احتمال موجود تھا کہ اس نے مجامعت نہ کی ہو تو معلوم ہوا کہ مسرا رسول کریم ﷺ کی حرمت شکنی کی وجہ سے دی جانے والی تھی۔ (السارم المسول ص ۵۸)

## 22

﴿الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزَّ وَاجْهَةَ أَمْهَاتِهِمْ﴾

[الاحزاب: ۶]

” بلاشبہ نبی توانی ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ”

سورہ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ ﷺ کی تعظیم اور آپؐ کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہیں۔ شروع سورت میں مشرکین و منافقین کی ایذا اور کاذکر کر کے رسول اللہ ﷺ کو ہدایات دی گئی تھیں اس کے بعد جاہلیت کی تین رسولوں کا ابطال کیا گیا جن میں آخری رسول کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ایذا سے تھا کیونکہ کفار نے حضرت زید بن شعیبؓ کی مطلقہ بیوی حضرت زینبؓ سے رسول اللہ ﷺ کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متعین

کی بناء پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا اس طرح شروع سورہ سے یہاں تک ایذا رسول اللہ ﷺ سے متعلق مضمون تھا۔ اس آیت مذکورہ میں آپ ﷺ کی تعظیم و اطاعت کو تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا سید مودودی مرحوم لکھتے ہیں: [تفہیم القرآن، ۱/۲]

نبی ﷺ کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی ﷺ سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالاتر نوعیت رکھتا ہے کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی ﷺ اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی ﷺ مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے ساتھ خوغرضی برت سکتے ہیں ان کو گراہ کر سکتے ہیں ان سے غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی ﷺ ان کے حق میں وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہازی مار سکتے ہیں۔ حماقتوں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں ایکن بن ﷺ ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو اور جب معاملہ یہ ہے تو نبی ﷺ کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ ﷺ کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھیں اپنی رائے پر آپ ﷺ کی رائے

کو اور اپنے فیصلے پر آپؐ کے فیصلے کو مقدم رکھیں اور آپ کے ہر حکم کے آگے سرتسلیم خم کر دیں۔

اسی مضمون کو نبی ﷺ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جسے بخاری مسلم وغیرہ نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُوَّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ  
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

[صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول ﷺ من الایمان رقم (۱۰) و مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول ﷺ ... رقم (۷۰)]

”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کو محظوظ نہ ہوں۔“

اسی خصوصیت کی بنابر جو اوپر مذکور ہوئی ہے نبی ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی مائیں نہیں ہیں لیکن نبی ﷺ کی بیویاں اسی طرح ان کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں یہ مخصوص معاملہ نبی کریم ﷺ کے سواد نیا میں اور کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔

اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی ﷺ صرف اس معنی میں امہات المؤمنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی دوسرے احکام میں وہ مان کی طرح نہیں ہیں مثلاً ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سواباقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محروم تھے جن سے پردہ واجب تھا۔ ان کی صا جز ادیاں

مسلمانوں کے لیے ماں جائی بھئیں نہیں تھیں کہ ان سے بھی مسلمانوں کا نکاح منوع ہوتا ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے حکم میں نہ تھے ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی رو سے یہ مرتبہ ازدواج نبی ﷺ کو حاصل ہے جن میں لا محالہ حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی شامل ہیں لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علیؓ و فاطمہؓ اور ان کی اولاد کو مرکز دین بنا کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا اور اس بنابر دوسرے بہت سے صحابہؓ کے ساتھ حضرت صدیقہ عائشہ ام المؤمنینؓ کو بھی ہدف لعن و طعن بنایا تو ان کی راہ میں قرآن مجید کی یہ آیت حائل ہو گئی جس کی رو سے ہر اس شخص کو انہیں اپنی ماں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ایمان کا مدعی ہو۔ آخر کار اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا کہ نبی ﷺ نے حضرت علیؓ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی ازدواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں آپ ﷺ کی زوجیت پر باقی رکھیں اور جسے چاہیں آپ ﷺ کی طرف سے طلاق دے دیں۔

ابو منصور احمد بن ابو طالب طبری نے کتاب الاحجاج میں یہ بات لکھی ہے اور سلیمان بن عبد اللہ البحرانی نے اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا:

بَا ابَا الْحَسْنِ ان هَذَا الشُّرْفُ بَاقِيٌّ مَا دُمْنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ

تعالیٰ فایتمَن عصَتِ اللہ تعالیٰ بعدی بالخروج علیک  
فَطَّلَقُهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ وَاسْقَطُهَا مِنْ شَرْفِ امْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

”اے ابو الحسن! یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ  
اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں لہذا امیری بیویوں میں سے جو بھی میرے  
بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اسے طلاق  
دے دینا اور اس کو امہات المؤمنین کے شرف سے خارج کر دینا۔“

اصول روایت کے اعتبار سے تو یہ روایت سراسر بے اصل ہے ہی لیکن  
اگر آدمی اسی سورہ احزاب آیات ۲۸-۵۱-۵۲ پر غور کرے تو معلوم  
ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف پڑتی ہے کیونکہ آیت تحریر کے بعد  
جن ازواج مطہرات نے ہر حال میں رسول اللہ ﷺ کی رفاقت کو اپنے لئے  
پسند کیا تھا انہیں طلاق دینے کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو باقی نہ رہا تھا۔

علاوہ بریں ایک غیر متعصب آدمی اگر محض عقل ہی سے کام لے کر اس  
روایت کے مضمون پر غور کرے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغو اور رسول  
پاک ﷺ کے حق میں سخت تو ہیں آمیز افترا ہے۔ رسول ﷺ کا مقام تو بہت  
بالا و برتر ہے۔ ایک معمولی شریف آدمی سے بھی یہ موقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنی  
وفات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی فکر کرے گا اور دنیا سے رخصت ہوتے  
وقت اپنے داماد کو یہ اختیار دے جائے گا کہ اگر کبھی تیرا اس کے ساتھ جھگڑا  
ہو تو میری طرف سے اسے طلاق دے دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ  
اہل بیت کی محبت کے مدعا ہیں ان کے دلوں میں صاحب الہیت کی عزت

ونا موس کا پاس کتنا کچھ ہے اور اس سے گذر کر خود اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وہ  
کتنا احترام کرتے ہیں۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْيُسْتِ  
وَيُظْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا۔ [الاحزاب: ۳۲]

”اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم، اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے  
اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔“

جن کی پاکیزگی اور طیب طاہر ہونے کی شہادت خود اللہ تعالیٰ دے  
رہے ہیں آپ خیال کیجئے کہ ان کے متعلق کچھ برا کہنے والا اللہ تعالیٰ کے ارشاد  
جھٹکار رہا ہے تو غور کیجئے کہ کیا اس میں اسلام کی کوئی رمق باقی ہوگی۔ وہ مسلمان  
رہ سکے گا کیا سزا نے سخت سے نفع سکے؟

ازواج مطہرات کی فضیلت و احترام کے بارے میں کنز العمال سے  
چند روایات درج کی جاتی ہیں۔

خیار کم خیار کم لنسائی۔ [کنز العمال ۶/۲۶۶]

”تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میری عورتوں کے حق میں  
بہترین ہوں۔“

ازدواج مطہرات زنی انگریز کو طیب و طاہر مانتے والا ہی خیر ہو سکتا ہے ان  
میں کسی قسم کا شبہ بھی پیدا کرنے والا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہو گا۔

لَنْ يَحْتَوْ عَلَيْكُنْ بَعْدِ الْأَصْالِحُونَ وَفِي رَوَايَةِ الْ  
صَابِرُونَ۔ [کنز العمال ۶/۲۶۶]

”تم پر میرے بعد صرف نیک لوگ ہی شفقت کریں گے۔

یہ پیش گوئی صاف بتاری ہے کہ آوارہ و بدکردار لوگ بکواس کیا کریں گے صرف نیک اور طاہر ہی میرے بعد تم پر شفقت کریں گے۔

ان الذین يَحْنُو عَلَيْکُنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارٌ [قال

لَا زَوْاجَهُ]۔ [کنز العمال ۶/۲۶۷]

”میرے بعد تم پر جو شفقت کرے گا وہی سچا اور نیک ہو گا۔

غور کیجئے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد چے اور نیک ہونے کا معیار کیا ہے۔

ان فضل عائشة علی النساء کفضل الشرید علی سائر

الطعام۔ [کنز العمال ۶/۲۴]

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت باقی خواتین پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔“

دنیا و آخرت کی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ فضیلت حاصل ہے جو سب کھانوں پر ثرید کو [عرب کا مرغوب ترین کھانا ہے] سب کھانوں پر۔

احب النساء الى عائشة ومن الرجال ابوها.

[کنز ۴/۲۲۴]

عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں اور مردوں میں ان کے والد ”ابو بکر“ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

غور کیجئے کہ اللہ و رسول ﷺ کے بعد عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ اور مردوں میں ان کے والد چونکہ قاعدہ ہے دوست کا

دوست، دوست ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے حبیب اور یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے حبیب تو دونوں اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔

عائشہ زوجتی فی الجنة.

[کنز / ۲۲۴ / ۶]

”عائشہ زوجتی میں میری زوجہ ہوں گی۔“

دنیا و آخرت میں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے تو وہ کون قرار پائے گا جو ان سے نفرت کرے۔

هذا جبریل یُقْرِئُكُ السلام . [کنز / ۲۲۴ / ۶]

اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔

تمام فرشتوں میں سے افضل فرشتہ تمام انبیاء پر وحی لانے والے فرشتہ نے جن کو سلام کیا وہ کیا ہوں گی۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَمِيعَ بَيْنِ وَبَيْنِ رِيقَهِ . [کنز / ۲۲۴ / ۶]

حضرت عائشہ زوجتی فرماتی ہیں کہ وصال نبوی ﷺ کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اور حضور کے لئے اطہر کو جمع فرمایا تھا ”مسواک کا واقعہ وصال اطہر کے وقت کا معروف ہے۔“

حضرت حفصہ زوجتی کے بیوہ ہونے کے بعد ان کے والد حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عثمانؓ سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر حضرت عثمانؓ نے اعراض کیا اس پر حضرت عمرؓ نے جب حضرت عثمانؓ کی شکایت بارگاہ نبوی ﷺ میں کی تو آپ نے فرمایا:

تزوج حفصة خير من عثمان وتزوج عثمان خيرا من

حفصة فزوجه النبي ﷺ ابنته۔ [کنز ۱۱۷/۷]

حضرت خصہ ﷺ سے وہ شادی کرے گا جو عثمانؑ سے بہتر ہوگا اور عثمانؑ ایسی خاتون سے شادی کریں گے جو خصہؓ سے بہتر ہوگی۔

جن کی بہتری رسول اللہ ﷺ فرمائیں ان کو کسی قسم کا عیب لگانا خالص جھوٹ اور مکاری نہیں تو اور کیا ہے۔

قال لى جبريل راجع حفصة فانها صوامة قوامة فانها زوجتك في الجنة۔ [کنز ۲۲۶/۶]

مجھے جبریل امین ﷺ نے کہا کہ خصہؓ سے رجوع کر لیجئے کیونکہ وہ بہت روزہ دار اور بہت قیام اللیل کرنے والی ہیں اور یہ جنت میں آپ ﷺ کی زوجہ ہوں گی۔

جبریل ﷺ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کچھ نہیں کہہ سکتے تو جن کو اللہ تعالیٰ بواسطہ جبریل روزوں والی، رات کی عبادت کرنے والی فرمائیں ان کی شان میں گالیاں بکنا اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنا ہوگا غور کیجئے کتنا سخت جرم ہے۔

## 23

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا☆ وَالَّذِينَ يُؤْذُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ مَا اكْسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّهِينًا﴾۔

” جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا  
اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوائیں  
عذاب مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور  
اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا  
و بال اپنے سر لے لیا ہے۔“

ان آیات سے سابقہ آیات میں مسلمانوں کو افی چیزوں پر تنبیہ کی گئی  
تھی جن سے رسول اللہ ﷺ کو ایذا و تکلیف پہنچتی تھی۔ مگر کچھ مسلمان  
ناواقفیت یا بے توجیہ کی وجہ سے بلا قصد ایذا اس میں بتلا ہو جاتے تھے جیسا  
کہ آپ کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا یا دعوت کے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ  
جانا یا کھانے کے بعد آپ کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر ذیر لگانا  
وغیرہ جن پر آیت یا آیہا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الآیۃ میں  
تنبیہ کی گئی ہے یہ وہ ایذا تھی جو بلا قصد وارادہ غفلت سے پہنچ جاتی اس پر تو  
صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا مذکورہ دو آیات میں اس ایذا و تکلیف کا ذکر ہے  
جو مخالفین اسلام کفار و منافقین کی طرف سے قصد اآپ ﷺ کو پہنچائی جاتی  
تھی اس میں وہ جسمانی ایذا میں بھی داخل ہیں جو مختلف اوقات میں کفار کے  
ہاتھوں آپ ﷺ کو پہنچتی ہیں اور روحاںی ایذا میں بھی جو آپ ﷺ پر طعن  
و تشنج اور ازواجهِ مطہرات پر بہتان تراشی کے ذریعہ پہنچائی گئیں اس بالارادہ  
ایذا پہنچانے پر لعنت اور عذاب شدید کی وعید بھی آیت مذکورہ میں آئی ہے۔

اس آیت کے شروع میں جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ

کو ایذا اپنچا تے ہیں اس میں ایذا اپنچانے سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جو عادة ایذا کا سبب بناتے ہیں اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات پاک ہر تاثر و انفعال سے بالاتر ہے کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے لیکن وہ افعال جن سے عادة ایذا اپنچا کرتی ہے ان کو ایذا اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

اس میں انہم تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے بعض انہم تفسیر نے ان افعال و اقوال کو اس کا مصدقہ شہرایا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا زبانی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے مثلاً حادث و مصادب کے وقت زمانہ کو برا کہنا کہ درحقیقت فاعلِ حقیقی حق تعالیٰ ہے یہ لوگ زمانہ کو فاعل سمجھ کر گالیاں دیتے ہیں تو درحقیقت وہ فاعلِ حقیقی تک پہنچتی تھیں اور بعض روایات میں ہے کہ جان دار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے تو آیت میں اللہ کو ایذا دینے سے مراد یہ اقوال و افعال ہوئے۔

اور دوسرے انہم مفسرین نے فرمایا کہ یہاں درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی ایذا سے روکنا اور اس پر دعید کرنا مقصود ہے مگر آیت میں ایذا رسول ﷺ کو ایذا حق تعالیٰ کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ ﷺ کو ایذا پہنچانا ہے جبکہ حدیث میں آگے آتا ہے اور قرآن مجید کے سیاق و سبق سے بھی ترجیح اسی دوسرے قول کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ پہلے بھی ایذا رسول کا بیان تھا اور آگے بھی اسی کا بیان آرہا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی ایذا کا اللہ تعالیٰ کے لیے ایذا ہونا حضرت عبد الرحمن بن مغفلہ مزنی کی روایت سے ثابت ہے کہ:

قال رسول الله ﷺ اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی  
اصحابی لا تخدوهم غرضاً من بعدی فمن احبهم  
فبمحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن  
اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی الله ومن اذی الله  
فيوشك ان يأخذنے.

[سنن الترمذی، کتاب السناق، باب فی فضل من رأى النبي ﷺ، رقم (۳۸۵۸)]

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈروال اللہ سے ڈروان کو میرے بعد اپنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے بعض رکھا میرے بعض کی وجہ سے رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا۔“

اس حدیث سے جیسا یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایذا سے اللہ تعالیٰ کی ایذا ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو ایذا پہنچانا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، رسول اللہ ﷺ کی ایذا ہے۔

مذکورہ آیت کے شانِ نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں بعض میں ہے کہ یہ حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہتان لگانے کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جس زمانہ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہتان باندھا گیا تو عبد اللہ بن ابی منافق کے گھر میں کچھ لوگ

جمع ہوئے اور اس بہتان کو پھیلانے اور چلتا کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایذاء پہنچاتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت صفیہؓ سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا اس کے متعلق نازل ہوئی اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچے اس میں صدایقہ عائشہؓ پر بہتان بھی داخل ہے اور حضرت صفیہؓ اور زینبؓ کے نکاحوں پر طعن و تشنیع بھی شامل ہے دوسرے صحابہ کرام یعنی اشہم کو برا کہنا اور ان پر تبرہ اکرنا بھی داخل ہے۔

**رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح کی ایذاء پہنچانا کفر ہے**

جو شخص رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح کی ایذاء پہنچائے آپ کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے خواہ صراحة ہو یا کنایہ وہ کافر ہو گیا اور اس آیت کی رو سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہو گی اور آخرت میں بھی۔

دوسری آیت میں عام مومنین کو ایذاء پہنچانے کے حرام اور بہتان عظیم ہونے کو بیان کیا گیا ہے جبکہ وہ شرعاً اس کے مستحق نہ ہوں عام مومنین میں یہ قید اس لیے لگائی کہ ان میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بد لے میں اس کو ایذاء دینا شرعاً جائز ہے اور یہی آیت میں چونکہ معاملہ اللہ و رسول ﷺ کی ایذاء کا تھا اس میں کوئی قید نہیں لگائی اس لیے کہ وہاں جائز ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔

مذکورہ آیت اللَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ [الى] [بِهَا تَأْنَاعَظِيمًا]. سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا اور دکھنے پہنچانے کی حرمت ثابت ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

الْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ  
مِنْ أَمْنِ النَّاسِ عَلَى دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

[سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی ان المسلم من سلم ... رقم (۲۶۲۷)  
والنسائی، کتاب الایمان، باب صفة المؤمن رقم (۵۰۱۰)]

”مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب محفوظ ہوں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملہ میں محفوظ و مامون ہوں۔“

### شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

سورہ احزاب کی مذکورہ نوآیات سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”الصارم المسلط“ میں بڑی عمدہ علمی بحث کی ہے جو قابل ذکر ہے قارئین کرام کے لیے ہم یہاں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

یہ آیت کئی وجہ سے مسئلہ زیر بحث پر دلالت کرتی ہے۔

پہلی وجہ:- یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایذا کو رسول ﷺ کی ایذا اور اپنی اطاعت کو رسول ﷺ کی اطاعت کے مقرر و متصل کر کے بیان کیا ہے۔ یہ بطریق منصوص بھی آپ سے منقول ہے اور جو شخص اللہ کو ایذا دے وہ کافر

اور مباح الدم ہے۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول ﷺ کی محبت اپنی اور رسول ﷺ کی رضامندی اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔

﴿قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاوُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَاتُكُمْ وَ أَمْوَالُ بِإِقْرَافٍ فُمُواهَا وَ تِجَارَةً تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنْ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

[التوبۃ: ۲۴]

”اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کار و بار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد سے عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی نہیں کرتا۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾. [التوبۃ: ۶۲]

”اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس بات کے بہت حقدار ہیں کہ ان کو راضی کریں۔“

اس آیت میں ”بُرْضُوه“ کی ضمیر واحد ہے اس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں مراد ہیں۔

ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّنُونَكَ إِنَّمَا يُبَيِّنُونَ اللَّهَ﴾ . [الفتح: ۱۰]      ”جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔“  
 ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ . [الأنفال: ۱]

”مال غنیمت کے بارے میں آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔“

مندرجہ ذیل آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، عداوت، اذیت اور معصیت کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔

- ۱: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [الأنفال: ۱۳]
- ۲: يَا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔
- ۳: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [المجادلة: ۲۰]
- ۴: بُشِّكْ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔
- ۵: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [التوبہ: ۶۳]
- ۶: کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔
- ۷: وَيَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [النساء: ۱۴]

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔“

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق باہم لازم و ملزم ہیں

مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق باہم لازم و ملزم ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کی جہت ایک ہی ہے۔ لہذا جس نے رسول ﷺ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لیے کہ امت کے تعلق باللہ کا رشتہ صرف رسول کے واسطے سے استوار ہو سکتا ہے کسی کے پاس بھی اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ یا سبب نہیں ہے۔ اوامر و نواہی اور اخبار و بیان میں اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے اس لیے ان امور میں اللہ اور رسول ﷺ کے مابین تفریق جائز نہیں۔

دوسری وجہ:- یہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول ﷺ کی ایذا اور مومنین اور مومنات کی ایذا میں تفریق کی ہے۔ اہل ایمان کی ایذا کے بارے میں فرمایا کہ

”اس نے بہتان باندھا اور و واضح گناہ کا ارتکاب کیا۔“

[الاحزاب: ۵۸]

جبکہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے پر دنیا و آخرت میں لعنت کی اور اس کے لیے رسوائی کرنے والا عذاب تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو ایذا کبھی تو کہاڑ کا ارتکاب کر کے دی جاتی ہے اور اس میں کوئی مارنا بھی شامل اس سے اوپر صرف کفرا اور قتل باقی رہ جاتا ہے۔

تیری وجہ:- اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور رسول کو عذاب تیار کیا ہے لعنت کے معنی رحمت سے دور کرنے کے ہیں اور دنیا و آخرت میں اس کی رحمت سے محروم صرف کافر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن بعض اوقات لعنت کے قریب تو پہنچ جاتا ہے مگر وہ مباح الدم نہیں ہوتا اس لیے کہ خون کی حفاظت اللہ کی طرف سے عظیم رحمت ہے جو اس کے حق میں ثابت نہیں ہوئی اس کی تائید درج ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

﴿لَئِنْ لَمْ يَتَّسِعُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَغُرِيبَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ☆ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفُوا أُخِذُوا وَ قِيلُوا تَقْتِيلًا﴾۔

[الاحزاب: ۶۱-۶۰]

”اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں انہا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بُری طرح مارے جائیں گے۔“

ان کو پکڑنا اور قتل کرنا ان کی لعنت کی توضیح اور اس کے حکم کا تذکرہ ہے اس لیے اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں اور وہ حالی ثانی بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب ملعون کی صورت میں وہ آپ کے پڑوس میں رہیں گے اور ان پر لعنت

کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تو یہ ان کے حق میں وعدید نہ ہوگی بلکہ لعنت وعدید سے قبل اور بعد بھی ثابت ہے پس یہ امر ناگزیر ہے کہ ان کو پکڑنا اور قتل کرنا اس لعنت کے آثار میں سے ہے جس کی وعدید انہیں سنائی گئی ہے پس یہ اس شخص کے حق میں ثابت ہوگی جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی۔

اس کی موئید وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا:

مَنْ لَعِنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَفَّارٌ.

[صحیح البخاری، کتاب الأداب، باب ما ينهى عن السباب واللعنة، رقم (٤٧٠) ومسلم،  
کتاب الإيمان، باب غلط تحريم قتل الإنسان رقم (١٧٦) (١١٠)]

”مؤمن پر لعنت کرنا اس طرح ہے جیسے اس کو قتل کر دیا جائے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اور آخرت میں لعنت فرمائی تو یہ اس طرح ہے جس طرح اسے قتل کر دیا گیا پس اس سے معلوم ہوا کہ اس کا قتل مباح ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لعنت کا مستوجب کافر ہوتا ہے مگر علی الاطلاق اس کا استعمال درست نہیں اس کی موئید یہ آیت ہے۔

﴿إِنَّمَا تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ لَأَءَاهْدِي مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا سَبِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ نَصِيرًا﴾۔ [السَّاء: ٥٠ - ٥١]

”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جب اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں

سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پا سکے گے۔“

اگر وہ مخصوص الدم ہوتا تو مسلمانوں پر اس کی مدد واجب ہوتی اور اس کے مددگار ہوتے۔ اس کی مزید توضیح اس سے ہوتی ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی اس پر یہ لعنت ہوئی کہ اسے قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیا کرتا تھا۔ [الصادر المسلط ص ۲۱]

سورہ احزاب کی مذکورہ آیت نمبر ۵۸ کے بارے میں اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ آیت بطورِ خاص امہات المؤمنین فاطمۃ النبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے جب آیت کریمہ ”يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ“ تک پہنچ گئی تو فرمایا یہ آیت بطورِ خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اس لیے مہم ہے کہ اس میں توبہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جو شخص کسی مومن عورت پر بہتان باندھے تو اسے توبہ کا حق حاصل ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءَ﴾۔

[النور: ۴]

”جو لوگ پا کدا من عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں۔“

اس آیت میں ان کو توبہ کا حق دیا گیا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دینے والوں کو توبہ کا موقع نہیں دیا گیا۔ حاضرین میں سے ایک کو یہ تفسیر اس قدر پسند آئی کہ اس نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سرچوم لے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت

خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں منافقین پر عمومی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عائشہؓ اور امہات المؤمنینؓ پر بہتان طرازی کی تھی اس لیے کہ ان پر بہتان لگانے سے رسول اللہ ﷺ پر طعنہ زنی اور عیب جوئی لازم آتی ہے اس لیے کہ بیوی پر بہتان طرازی خاوند اور اس کے بیٹے کے لیے اذیت رسانی کا موجب ہوتی ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بے غیرت ہے اور اس کی بیوی نقص و فساد سے مبتہ نہیں۔ بیوی کے ساتھ بدکاری، شوہر کے لیے حد درجہ اذیت رسائی ہے۔ اسی لیے شارع نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر بیوی زنا کی مرتكب ہو تو شوہر اس پر بہتان لگانے اور لعنان کے ذریعہ شوہر سے حد کو ساقط کر دیا مگر کسی اور کے لیے مباح نہیں کسی صورت میں بھی عورت پر بہتان طرازی کرے۔ بیوی پر بہتان لگانے سے بعض لوگوں کو جونگ و عار لاحق ہوتی ہے وہ اس عار سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کی اپنی ذات پر بہتان طرازی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمدؓ سے اس ضمن میں جود و منصوص روایات مذکور ہیں ان میں سے ایک کے مطابق انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو غیر محسنة پر بہتان لگائے مثلًاً لوٹڈی یا ذمیہ پر جب کہ اس عورت کا خاوند یا بیٹا محسن ہو تو بہتان لگانے والے پر حد لگائی جائے گی اس لیے کہ بہتان طرازی کی وجہ سے اس کے محسن بیٹے اور شوہر کو عار لاحق ہوئی ہے۔

امام احمدؓ سے دوسری روایت نقل کی گئی ہے: اور وہی اکثر علماء کا موقف ہے کہ بہتان طرازی کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے اس لیے کہ خاوند اور بیٹھ کو اس سے ایذا ا تو پہنچی ہے مگر ان پر بہتان لگایا گیا اور کامل حد قذف کی وجہ سے لگائی جاتی ہے مگر رسول اللہ ﷺ کی ذات کے بارے میں ایذا، اسانی بھی قذف کی مانند ہے جو رسول کریم ﷺ کی ازواجؓ کی تنقیص کر کے رسول اللہ ﷺ پر عیب لگائے وہ منافق ہے اور یہی مفہوم حضرت ابن عباسؓ کے اس قول کا ہے کہ منافقین کے بارے میں عام لعنت ہے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ سے کسی نے پوچھا کہ آیاز ناز پادہ بُر ا فعل ہے یا پاکدا من عورت پر بہتان طرازی؟ تو انہوں نے کہا کہ زنا زیادہ برا ہے میں نے کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ:

”جو لوگ پاکدا من اور احساں گناہ سے غافل عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔“ [النور: ۲۳]

یہ سن کر حضرت ابن عباسؓ نے کہا یہ بطور خاص حضرت عائشہؓ کے بارے میں ہے اگر کوئی شخص مسلم عورت پر بہتان لگائے تو وہ نص قرآنی کے مطابق فاسق ہے اور وہ توبہ کرے۔

اس کی وجہ ہم قبل از اس بیان کر چکے ہیں کہ محض بہتان لگانے کی وجہ سے کوئی شخص دنیا اور آخرت کی لعنت کا مستوجب نہیں ہو سکتا۔ بنابریں ”الْحَصَنَاتُ الْغَافِلَاتُ الْمُؤْمَنَاتُ“ کalam تعریف عہد کے لیے ہے۔ اور معہود یہاں رسول کریم ﷺ کی ازواجؓ مطہراتؓ ہیں اس لیے کہ آیت کے سیاق

مسابق میں واقعہ افک اور حضرت عائشہؓ پر بہتان لگانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے یا یوں کہیئے کہ خصوصی سبب کی وجہ سے لفظ عام کو مقصود و مدد دیا گیا ہے۔

اس کا موید یہ امر ہے کہ اس عید کو پاکدامن اور غافل طبع مومن عورتوں پر بہتان لگانے پر مرتب کیا گیا ہے۔ سورہ نبڑا کے آغاز میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّمُثْمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ۴]

”وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے انہیں اسی کوڑے مارو۔“

اس آیت میں کوڑے مارنے شہادت کے رد کرنے اور فرقہ کو محض بہتان لگانے پر مرتب کیا گیا ہے۔ لہذا پاکدامن غافل طبع اور مومن عورتوں کو محض پاکدامن عورتوں پر ترجیح ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم

اس لیے کہ ازواج مطہراتؓ کے ایمان کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نبی ﷺ کی بیویاں ہیں جبکہ عام مسلمان عورتوں کے لیے ایمان کا پتہ محض ان کے ظاہر سے چلتا ہے نیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ۱۱]

”اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔“

اس آیت میں ”تَوَلَّى كِبْرَهُ“ [بڑا بوجھ اٹھانے] کی تخصیص اس کے عذاب عظیم کے ساتھ مختص ہونے کی دلیل ہے۔

نیز فرمایا:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  
لَمْسَكُمْ فِي مَا أَفَضَّلُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾۔ [النور: ۱۴]

”اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔“

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ بڑے عذاب میں ہر شخص کو بتلا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ شخص دوچار ہو گا جس نے اس میں بڑا پارٹ ادا کیا ہے یہاں فرمایا ”وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“، اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امہاتُ الْمُؤْمِنِينَ پر بہتان باندھا، رسول اللہ ﷺ کو عیب دار بنانا چاہا اور اس واقعہ میں سرگرم حصہ لیا یہ عبد اللہ بن ابی منافق کی علامات ہیں۔

[الصارم المسلول ص ۴۷]

## واقعہ افک کا تاریخی لپس منظر

رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کرڈائیں اور آپ کو ایذا پہنچانے کی جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آسکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذا میں آپ ﷺ کو پہنچی ہیں ان میں یہ شاید آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالم و فاضل اور مقدس ترین امُّ المؤمنین صدیقہ عائشہؓ پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطلؓ جیسے مقدس صحابی پر عبد اللہ بن ابی منافق نے تہمت گھڑی اور منافقین نے اس کو اور پھیلایا اس میں سب سے زیادہ

رخچ دہ بات یہ ہوئی کہ چند سیدھے سادھے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ یہ بے اصل و بے دلیل ہوا تی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی مگر ام المؤمنین کو اور خود رسول اللہ ﷺ کی جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچتی تھی حق تعالیٰ نے اس کے ازالہ اور صدیقہؓ کی براءت کے لیے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دور کوئ ان کی براءت میں نازل فرمائے اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھٹی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعدید میں فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعدید میں نہیں آئیں۔

درحقیقت اس واقعہ نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لیے اس واقعہ میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حادثہ کو اپنے لیے شرمنہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دس آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ پر میری صفائی اور براءت جگہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ ﷺ پر میری صفائی اور براءت ظاہر فرمادیں گے مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد اصل واقعہ اور اس کا تاریخی پس منظر ملاحظہ فرمائیں۔

جس غزوہ میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام غزوہ بنی المصطلق ہے بنی

المصلطق قبیلہ بنی خزانہ کی ایک شاخ ہے جو ساحل بحیرہ روم پر جدہ اور رابغ کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی اس کے چشمے کا نام مریمیع تھا جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام مریمیع بھی آیا ہے۔

**شعبان ۶** میں نبی ﷺ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسراے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سراٹھانے سے پہلے ہی اس کو کچل دیا جائے اس مہم میں عبد اللہ بن ابی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریمیع کے مقام پر رسول اللہ ﷺ نے اچانک دشمن کو جالیا اور تھوڑی سی رو دخورو کے بعد پورے قبیلے کو مال، اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریمیع ہی میں لشکر اسلام پڑاؤڑا لے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر بن عثمان کے ایک ملازم اور قبیلہ خزرج کے ایک شخص کے درمیان پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا دوسراے نے مہاجرین کو آواز دی لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا لیکن عبد اللہ بن ابی نے جوانصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بنگڑ بنا دیا اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن ٹیٹھے ہیں۔ ہماری اور ان قریلیش کنگلو کی مثال ایسی ہے کہ ”کتنے کو پاں تاکہ تجھی کو بھینبھوڑ کھائے“ یہ سب کچھ تمہارا اپنا

کیا دھرا ہے۔ تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جامدات میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں پھر اس نے قسم کا کر کہا کہ مدینے والوں پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کر دے گا۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی ﷺ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرنا دینا چاہیے مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فكيف ياعمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه.

عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد ﷺ خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپؐ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دو پھر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا، تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چہ میگوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے راستے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ! آج آپؐ نے اپنے معمول کے خلاف ناوقت کوچ کا حکم دے دیا؟ آپؐ نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ آپؐ نے فرمایا عبد اللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس شخص سے رعایت فرمائیے۔ آپؐ جب مدینے تشریف لائے ہیں تاہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا آپؐ ﷺ کی آمد سے اس کا بنانا یا کھیل گز گیا اس کی جلن وہ نکال رہا ہے۔

یہ شوشهہ بھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک خطرناک قتنہ

اٹھادیا اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی ﷺ اور آپؐ کے جانشیر صحابہ رضی اللہ عنہم کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینے کی نو خیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگلی برپا ہو جاتی یہ حضرت عائشہؓ پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس واقعہ کو خود انہی کی زبان سے سنئے جس سے پوری صورت حال سامنے آجائے گی۔ پچ شیخ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے تو سین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جنابہ سیدہ عائشہؓ کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو۔

فرماتی ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا قاعدہ تھا کہ جب آپؐ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپؐ کی بیویوں میں سے کون آپؐ کے ساتھ جائے گی۔ غزوہ بنی الحصطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپؐ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب مدینے کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے لگے کا ہارٹ کر کہیں گر پڑا ہے میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہو دے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی ہلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں

اس میں نہیں ہوں وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آجائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیندا آگئی۔

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطلؓ صحابی جن کو رسول اللہ ﷺ نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گردی پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں وہ صح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشنی پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سور ہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت عائشہؓ کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پرده کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انہی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے انا لله وانا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ صدیقہؓ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دو پھر کے قریب ہم نے لشکر کو جایا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیئے اور ان میں سب سے پیش پیش عبد اللہ بن ابی تھا۔ مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔

دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس دقت صفوانؓ کے اونٹ پر حضرت

عائشہؓ جی انہیں لشکر گاہ میں پہنچیں اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پچھے رہ گئی تھیں اسی وقت عبد اللہ بن ابی پکارا تھا کہ اللہ کی قسم یہ نج کرنیں آئی ہے۔ لو دیکھو تمہارے نبی ﷺ کی کیفیتؓ کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گذاری اور اب وہ اسے علانیہ لئے چلا آ رہا ہے۔

مدینہ پہنچ کر میں یہاں ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پنگ پر پڑی رہی شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں رسول اللہ ﷺ کا کافی تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے ہٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا۔ بلکہ اس عرصہ میں آپ ﷺ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے۔ اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا میں اسی غم میں گھلنے لگی۔

ایک روز رات کے وقت قضاۓ حاجت کے لیے مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مسٹح بن اثاثہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ [دوسرا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر نے اپنے ذمے لے رکھی تھی مگر اس احسان کے باوجود مسٹح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہؓ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے] راستے میں ان کوٹھو کر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان

سے نکلا غارت ہو مسطح میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مسطح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے۔ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مسطح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دو گنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حب معمول رسول اللہ ﷺ تشریف لائے سلام کیا اور مزانج پرسی فرمائی تو صدیقہ رض نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔ فرشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں میں نے جا کر والدہ سے پوچھا انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہو اکرتے ہیں اور اسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں۔ تم اس کے غم میں نہ پڑو۔ خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا بجان اللہ! لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا میں اس پر کیسے صبر کروں۔ میں ساری رات روئی رہی، نہ میرے آنسو تھے نہ آنکھ لگی۔ دوسرا طرف رسول اللہ ﷺ جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ ﷺ پر نہ آتی تھی۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسماء بن زید رض جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایک رض میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسماء بن زید نے تو کھل کر عرض کیا۔ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں حضرت عائشہ رض کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ اس کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ لا۔ ذرا ہوں کی کچھ پرواہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے

آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے [یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں فرمائی۔ اگر انہوں کی بنا پر عائشہؓ کی طرف سے کچھ تکدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں اور آپ ﷺ کا یہ تکدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریہؓ سے جو عائشہؓ صدیقہؓ کی کنیز ہیں ان سے ان کے حالات میں تحقیق فرمائیجے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بریہؓ سے پوچھ گچھ فرمائی۔ بریہؓ نے عرض کیا اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آتی بجز اس کے کہ نو عمر لڑکی ہیں۔ بعض اوقات آٹا گوند کر رکھ دیتی ہیں۔ خود سوجاتی ہیں بکری آکر آٹا کھا جاتی ہے۔ [اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ دینا اور انہوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے آگے کا مختصر قصہ یہ ہے] صدیقہؓ نے فرماتی ہیں کہ مجھے سارا دن اور پھر دوسرا رات بھی مسلسل روتے ہوئے گذری۔ میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا لکھجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھر آپؐ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا۔ اے عائشہؓ! مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہچنی ہیں۔ اگر تم بُری ہو تو ضرور اللہ تمہیں بُری کر دیں گے [یعنی برانت کا اظہار بذریعہ وحی فرمادیں گے] اور اگر تم سے کوئی لغزش ہوگئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا کلام پورا فرمالیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔

میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق  
رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بات کا جواب دیجیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے  
عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب  
دیجیے انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا  
پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ اب تک قرآن بھی زیادہ نہ پڑھ سکتی تھی۔ اس  
وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں جب کہ اچھے اچھے عقلاً کو بھی  
کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت صدیقہؓ نے جو کچھ فرمایا وہ  
ایک عجیل و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے۔ ان کے الفاظ یعنیہ لکھے جاتے

ہیں:

وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي  
أَنفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ مِنْهُ وَلَيْسَ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي مِنْهُ بَرِيئٌ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَأَنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئٌ لَتُصَدِّقُونِي وَاللَّهُ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ  
مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَصَبَرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ  
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ [طبرانی کبیر ۵۴/۲۳]

”اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے  
رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی  
[عمل] تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری  
ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں واقع میں بری ہوں تو آپ میری  
تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کروں جس

سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپؐ میری بات مان لیں گے۔ واللہ! اب میں اپنے اور آپؐ کے معاملہ میں کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف ﷺ کے والد یعقوب ﷺ نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد چاہتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔“

صدقیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برائت کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرمائیں گے۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی۔ کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ ﷺ کو خواب میں میری برائت ظاہر کردی جائے گی۔ صدقیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تھا کہ آپؐ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانہ میں آپ ﷺ کی پیشانی مبارک سے پسند پھوٹنے لگتا تھا جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ ﷺ ہنسنے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا۔ اب شرُوٰی یا عائشہ ! اَمَّا اللَّهُ فَقَدْ أَبْرَأَكَ - یعنی اے عائشہ ! خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کھڑی ہو جاؤ اور رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں کھڑی ہوں گی میں اپنے

رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بری فرمایا۔

[تفسیر معارف القرآن ۳۷۰/۶]

## حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات

امام بغوی نے انہیں آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی [بطور تحدیث بالعمرۃ] ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہاری زوجہ ہے [ترمذی] اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین اپنی ہاتھی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سوا کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا۔

تیسرا یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔

چوتھی یہ کہ بیت عائشہ رضی اللہ عنہا میں آپ مدفون ہیں۔

پانچویں یہ کہ آپ ﷺ پر اس وقت وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک کاف میں ہوتے تھے۔ دوسری کسی بیوی کو

یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی۔ [ترمذی ۲۲۷/۲]

چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی براءت نازل ہوئی۔

ساتوں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ ہیں کو فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسی بن طلحہ ہیں نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ ہیں کے سے زیادہ فضح و بلیغ نہیں دیکھا۔

[ترمذی ص ۲۲۸/۲]

### ایک اہم تنفسیہ

حضرت صدیقہ عائشہ ہیں پر تہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے۔ یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات براءت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں آیات براءت نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہ ہیں پر تہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر، منکر قرآن ہے۔ جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں بتلاپائے جاتے ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماعِ امت کافر ہیں۔

### حدّ قذف

قرآنی ضابطہ کے مطابق اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں پر جس کا ذکر قرآن میں ہوا تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے لاتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حدّ قذف جاری کی ہر ایک کو آٹی

آسی کوڑے لگائے۔ بزار اور ابنِ مردُویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے تین مسلمانوں پر حدِ قذف جاری فرمائی مصطفیٰ، حمنہ، حسان اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر عبد اللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دو ہری حد جاری فرمائی۔ پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔

**حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینے والے کا حکم**

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال القاضی ابو یعلیٰ من قذف عائشة بما برأها الله منه کفر بلا خلاف وقد حکی الاجماع علی هذا غير واحد و صرح  
غير واحد من الائمه بهذا الحکم فروی عن مالک من سب  
ابا بکر جلید و من سب عائشة قتل قیل له لم؟ قال من رماها  
فقد خالف القرآن لأن الله تعالى قال يعظكم الله ان تعودوا  
لمثله ابدا ان كنتم مؤمنین وقال ابوبکر بن زیاد النیسابوری  
سمعت القاسم بن محمد يقول لا اسماعیل بن اسحاق اتى  
المؤمنون بالرقہ برجلین شتم احدهما فاطمة والآخر عائشة  
فامر بقتل الذى شتم فاطمة وترك الآخر فقال اسماعیل  
ما حکمهمما الا ان يقتلا لأن الذى شتم عائشة رد القرآن  
وعلى هذا مضت سیرة اهل الفقه والعلم من اهل البيت

وغيرهم... قال ابو السائب القاضی کنت يوماً بحضوره الحسن بن زید الداعی بطیرستان و كان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر ويوجه فى كل سنة بعشرين الف دینار الى مدینة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة و كان بحضورته رجل فذكر عائشة بذکر قبیح من الفاحشة فقال ياغلام اضرب عنقه فقال العلویون هذا رجل من شیعتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبی صلی الله علیه وسلم قال الله تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیيون للطیبات او لئک مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم فان كانت عائشة خبیثة فالنبی ﷺ خبیث فهو کافر فاضربوا عنقه فضربوها عنقه وانا حاضر رواه الالکائی. وروى عن محمد بن زید اخی الحسن بن زید انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بالسوء فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله فقيل له هذا من شیعتنا ومن بنی الآباء فقال هذا سمي جدی قرنان ومن سمي قرنان استحق القتل فقتله.

[الصارم المسلول ص ۵۷۱]

”قاضی ابو یعلی فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ کو گالی دے اسے قتل کیا جائے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو کہا جس نے حضرت عائشہؓ پر بہتان باندھا اس نے قرآن کی مخالفت کی قرآن کریم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ایسا کام (نہ) کرنا  
اگر تم سچے مومن ہو۔ [النور: ۱۷]

ابو بکر بن زیاد نیشا بوری فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا  
وہ اسماعیل بن اسحاق کو کہہ رہے تھے کہ رقه کے شہر میں خلیفہ مامون کے  
پاس دوآدمیوں کو لاایا گیا ان میں سے ایک نے حضرت فاطمہؓ کو گالی  
دی تھی اور دوسرا نے حضرت عائشہؓ کو اس نے حضرت فاطمہؓ  
کو گالی دیئے والے قتل کا حکم دیا اور دوسرا کو چھوڑ دیا۔ اسماعیل نے  
کہا دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے کیونکہ جس نے حضرت عائشہؓ  
کو گالی دی اس نے قرآن کی مخالفت کی اہل الفقة والعلم کا طرز عمل اہل  
بیت وغیرہم کے ساتھ ہی ہے۔

ابوالسابق القاضی نے کہا کہ ایک دن میں طبرستان حسن بن زید  
الداعی کے پاس تھا وہ اون کا لباس پہنتے اور امر بالمعروف و نهی عن المکر پر  
عمل پیرا تھے وہ ہر سال بیس ہزار دینار مدینہ منورہ بھیجتے تھے تاکہ صحابہ کے  
بچوں میں تقسیم کئے جائیں ان کے پاس ایک شخص تھا جس نے حضرت  
عائشہ صدیقہؓ کا تذکرہ فتح الفاظ میں کیا تو انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ  
اس کی گردان اڑا دے یہ دیکھ کر علویوں نے کہا کہ یہ ہمارے گروہ کا آدمی  
ہے اس نے کہا اللہ کی پناہ اس شخص نے رسول کریم ﷺ پر طعن کیا۔ قرآن  
میں فرمایا گیا ہے:

”نپاک عورتیں نپاک مردوں کے لیے اور نپاک مرد نپاک عورتوں کے  
لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے

لیے یہ [پاک لوگ] ان [بدلوگوں] کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور اچھی روزی ہے۔“

اگر حضرت عائشہؓ [معاذ اللہ] ناپاک تھیں تو رسول اللہ ﷺ بھی [معاذ اللہ] ناپاک ہوں گے۔ لہذا یہ شخص کافر ہے اس کی گردن ازاد و چنانچہ میری موجودگی میں اسے قتل کر دیا گیا اس کو لاکائی نے روایت کیا ہے۔

حسن بن زید کے بھائی محمد بن زید سے مردی ہے کہ ان کے پاس عراق کا ایک شخص آیا اور اس نے بُرے الفاظ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کا ذکر کیا وہ ایک کھبائے کراس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر مارکر اسے قتل کر دیا ان سے کہا گیا کہ یہ شخص [مقتول] تو ہمارے گروہ سے ہمارا پچازا دھنا۔ انہوں نے کہا اس نے میرے جد [دادا یا نانا] کو قرآن کہا اور جو انہیں قرآن کہے گا وہ قتل کا مستحق ہو گا لہذا میں نے اسے قتل کر دیا۔

حضرت صدیقہ عائشہؓ کے سواد بگرا مہمات المؤمنین کو

## گالی دینا

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَمَا مِنْ سَبْعَ غَيْرِ عَائِشَةَ<sup>ؐ</sup> مِنْ أَزْوَاجِهِ<sup>ؐ</sup> فِيهِ قَوْلَانِ احْدَهُمَا  
إِنَّهُ كَسَابٌ غَيْرُهُنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ مَا سِيَّاسَتَيْ وَالثَّانَىٰ وَهُوَ  
الْأَصْحَىٰ مَنْ قَدْفَ وَاحِدَةً مِنْ امْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَقَدْفِ  
عَائِشَةَ<sup>ؐ</sup> وَقَدْ تَقْدَمَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ لَانَ هَذَا

فیه عار و غضاضة علی رسول اللہ ﷺ و اذی لہ اعظم من اذہ  
بنکا حهنہ بعده وقد تقدم التنبیہ علی ذلک فيما مضی عند  
الکلام علی قوله ان الذین یؤذون اللہ و رسوله الآیة والامر فيه  
واضح۔ [الصارم المسلول ص ۵۷۲]

جو شخص صدیقہ عائشہؓ کے علاوہ دیگر امہات المؤمنینؓ کو گالی  
دے تو اس کے بارے میں دو قول ہیں:

۱:- پہلا قول یہ ہے کہ وہ اسی طرح جیسے دیگر صحابہؓ کو گالی دی ہو۔

۲:- دوسرا صحیح تر قول یہ ہے کہ جو امہات المؤمنینؓ میں سے کسی  
پر بہتان لگائے وہ حضرت عائشہ صدیقہؓ پر بہتان لگانے کی مانند ہے۔ یہی  
قول قبل ازیں حضرت ابن عباسؓ سے بھی نقل کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ  
بات رسول اللہ ﷺ کے لیے باعث عار و نگ ہے یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے  
اتنی بڑی اذیت رسان ہے کہ آپؐ کے بعد آپؐ کی بیویوں سے نکاح  
کرنا بھی اتنا اذیت رسان نہیں ہے۔ ہم قبل ازیں مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر  
کرتے ہوئے اس پر روشنی ڈال چکے ہیں فرمایا:

بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا ادیتے ہیں۔

[الاحزاب: ۵۷]

اور یہ معاملہ نہایت واضح ہے۔

## احادیث نبوی ﷺ

قرآنی آیات کے بعد اب وہ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں جن میں توہین رسالت کے مرتكب اور شاتم رسول ﷺ کی سزا کا بیان ہے۔

### 1

حضرت علی عزوجلی سے مروی ہے کہ:

ان یہودیہ کانت تشنتم النبی ﷺ و تقع فيه فَخَنَقَهَا رجل حتى ماتت فابطل رسول الله ﷺ دمها.

[ابوداؤد ۲/۲۵۲]

”ایک یہودی عورت رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا تو آپ نے اس عورت کے خون کو رایگاں قرار دے دیا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هذا الحديث نص في جواز قتلها لاجل شتم النبي ﷺ ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة اذا سبها بطريق الاولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي ﷺ لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم حزية وهذا مشروع عند

اہل العلم بمنزلة المتواتر بینہم حتیٰ قال الشافعی لم اعلم  
مخالفا من اہل العلم بالسیر ان رسول الله ﷺ لما نزل  
المدینة وادع یہود کافہ علیٰ غیر جزیہ وهو كما قال  
الشافعی .

[الصارم المسلول ص ۶۲]

یہ حدیث اس مسئلہ میں نص کا حکم رکھتی ہے کہ نبی ﷺ کو گالیاں دینے  
والے کو قتل کرنا جائز ہے نیز یہ کہ ایسے ذمی کو قتل کیا جاسکتا ہے جو شامم ہے۔  
مسلم مرد یا عورت اگر آپ کو گالیاں دیں تو ان کو بطریق اولیٰ قتل کرنا جائز  
ہے اس لیے کہ یہ عورت ان لوگوں میں سے تھی جن کے ساتھ معاہدہ  
کیا گیا تھا رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے تمام  
یہودیوں کے ساتھ مطلق معاہدہ کیا گیا تھا اور ان پر جزیہ بھی نہیں لگایا گیا تھا  
اہل علم کے مابین یہ مسئلہ متواتر کا درجہ رکھتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں علماء  
سیر میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ  
منورہ تشریف لائے تو عامہ یہودیوں سے بلا جزیہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ اور امام  
شافعی کا یہ قول درست ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ جزیہ کے بغیر معاہدہ کیا  
پھر ایک یہودی عورت کے خون کو اس لیے ہدراقرار دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو  
گالیاں دیا کرتی تھی۔ تو ایک یہودی عورت کے خون کو جن پر جزیہ عائد کیا گیا  
تھا۔ اور وہ دینی احکام کے پابند بھی تھے ہدراٹھرا دیں تو یہ اولیٰ و افضل ہے۔ اور  
اگر اس عورت کا قتل جائز نہ ہوتا تو آپ اس عورت کے قاتل کے فعل کی ندامت

فرماتے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

من قتل نفساً معاہدةً بغير حقها لم يرح رائحة الجنة.

[ابن حبان ص ۲۳۸ / ۱۱]

”جس نے کسی معابر کو بلا وجہ قتل کیا تو وہ جنت کی خوبیوں پائے گا۔“

اور آپ اس عورت کی ضمانت یا معمصوم کو قتل کرنے کا کفارہ واجب کرتے۔ جب اس عورت کے خون کو آپ نے ہدر قرار دے دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا خون مباح تھا۔

## ②

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

ان اعمی کانت له ام ولد تشم النبی ﷺ و تقع فيه، فینهاها فلا تنتهي و يزجرها فلا تزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ و تشتمه، فاخذ المغول فوضعه في بطنه، واتکاً عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: ”انشد الله رجلاً فعل ما فعل، لى عليه حق، إلا قام“ فقام الاعمی يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها، كانت تشتمك و تقع فيك فأناهاها فلا تنتهي، و أزجرها فلا تزجر، ولی منها ابنيان مثل المؤلوتين،

وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةٍ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتَمِكْ وَتَقْعِي  
فِيكَ، فَاخْذَتِ الْمَغْوُلُ فَوَضَعَتْهُ فِي بَطْنِهِ وَاتْكَأَتْ عَلَيْهَا حَتَّى  
قُتِلَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِلَّا أَشْهَدُوا إِنْ دَمَهَا هَدْرٌ".

[ابوداؤد، کتاب الحدود، باب الحكم فیمن سب النبی ﷺ رقم (۴۳۶۱)، و النسائی ۲ / ۱۶۳]

ایک اندھے شخص کی ایک ام ولد لوٹھی تھی۔ جو رسول اللہ ﷺ کو  
گالیاں دیا کرتی تھی وہ اسے روکتا مگر وہ بازنہ آتی وہ ڈانٹا مگر وہ رکتی نہ تھی۔ ایک  
رات اس نے رسول کریم ﷺ کو گالیاں دینے کا آغاز کیا۔ اس نے بھالا لے کر  
اس کے شکم میں پیوسٹ کر دیا اور اسے زور سے دبایا۔ جس سے وہ ہلاک ہو گئی صبح کو  
اس کا تذکرہ رسول کریم ﷺ سے کیا گیا تو لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا:  
”میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے کیا جو کچھ کیا اور میرا اس پر  
حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔“

یہ سن کر ایک نایبنا آدمی کھڑا ہوا اور نوؤں کی گرد نیں پھلانگتہ ہوا آپ  
کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اس نے کہا یا رسول اللہ! اسے میں نے قتل کیا ہے وہ آپ  
کو گالیاں دیا کرتی تھی میں اسے روکتا مگر وہ بازنہ آتی تھی میں اسے ڈانٹ ڈپٹ  
کرتا مگر وہ پرواہ نہ کرتی۔ میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اس  
زور سے دبایا اس کے بطن سے میرے دو ہیروں جیسے بیٹے ہیں وہ میری رفیقہ  
حیات تھی گذشتہ شب جب وہ آپ ﷺ کو گالیاں لکنے لگی تو میں نے بھالا لے  
کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اسے زور سے دبایا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو رسول اللہ  
ﷺ نے فرمایا تم گواہ رہو کہ اس کا خون ہدر ہے۔

کیا پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں ایک ہی واقعہ  
ہے؟ یادِ عورتوں کا قصہ؟

شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ امر بعید از قیاس ہے کہ یہ دو واقعات ہوں اندھے آدمیوں میں سے  
ہر ایک کی عورت رسول کریم ﷺ کو گالیاں دیتی ہو اور دونوں نے اپنی اپنی  
بیوی کو قتل کر دیا اور دونوں ہی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو قسم  
دی۔ صحیح یہ ہے کہ مقتولہ ایک یہودی عورت تھی جیسا کہ ایک روایت میں صراحة  
ذکر کیا گیا ہے قاضی ابو یعلیٰ کا قول بھی یہی ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے  
استدلال کیا ہے کہ ذی اگر نقضِ عہد کا مرتكب ہوتا سے قتل کیا جائے ان کے  
خیال میں ہر دو احادیث میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

اس امر کا بھی احتمال ہے کہ یہ دو واقعات ہوں۔ امام خطابیؒ فرماتے  
ہیں اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دینے والے کو  
قتل کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ اس عورت کا آپ ﷺ کو گالیاں دینا ارتدا دعن  
الدین ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام خطابیؒ اس عورت کو مسلمان  
تصور کرتے ہیں حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں بلکہ اس کا کافر  
ہونا ہی واضح ہے اس کو امان اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ایک مسلم کی مملوک تھی۔ اس  
لیے کہ مسلمانوں کے غلام کو بھی ذی کے حقوق حاصل ہوتے ہیں بلکہ معاملہ دین  
کی نسبت ان پر زیادہ پابندی ہوتی ہے۔ یا اس لیے اسے پناہ ملی کہ وہ ایک مسلم

کی منکوحة تھی کیونکہ مسلمانوں کی اہل کتاب بیویاں محفوظ الدم ہونے کے اعتبار سے ذمیوں کا حکم رکھتی ہیں اس لیے کہ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دینا صرف مرتد سے صادر ہو سکتا ہے جس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہو۔

اگر وہ عورت مرتد ہوتی اور اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہوتا تو اس کا مالک ایک طویل عرصہ تک اسے اس حالت میں نہیں رکھ سکتا تھا وہ اسے گالیوں سے روکنے پر ہی اکتفانہ کرتا بلکہ اس سے مطالبہ کرتا کہ اپنے اسلام کی تجدید کرے خصوصاً اگر وہ اس سے ہم بستر ہوتا ہوا س لیے کہ مرتد عورت کے ساتھ مجامعت جائز نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر بدستور قائم تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بایس ہمدرد اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو کافر یا مرتد ہو گئی ہے بلکہ اس نے صرف اس کو گالیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے گالیاں دینے کے سواد و سر اکوئی جرم سرزنشیں ہو اتحامشاً ارتداً یا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انحراف وغیرہ۔

بہر کیف یہ عورت یا تو اس کی منکوحة بیوی ہو گی یا مملوکہ لوٹڈی دنوں صورتوں میں اگر اس کو قتل کرنا ناروا ہوتا تو رسول کریم ﷺ فرمادیتے کہ اس کو قتل کرنا حرام ہے اور اس کا خون معصوم ہے۔ معصوم کو قتل کرنے کی وجہ سے اس پر کفارے کو واجب قرار دیتے اور اگر وہ اس کی لوٹڈی نہ ہوتی تو اس پر دیت کو واجب قرار دیتے جب آپ نے فرمایا کہ اس کا خون ہدر ہے اور ہدر وہ خون ہوتا ہے جس کا نہ قصاص دیا جاتا ہے نہ دیت اور نہ کفارہ۔ تو اس سے معلوم ہوا

کہ وہ ذمی ہونے کے باوجود مباح الدم تھی۔ گویا کہ گالیاں دینے نے اس کے خون کو مباح الدم کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے خون کو اس وقت ہر قرار دیا جب آپ کو بتایا گیا کہ گالیاں دینے کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا موجب و محکم تھی ہے اور اس واقعہ کی دلالت اس پر واضح ہے۔

[الصارم المسلول ص ۶۸]

امام شوکانی "فرماتے ہیں:

وفي حديث ابن عباس و حديث الشعبي دليل على انه يقتل من شتم النبي ﷺ وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سب النبي ﷺ صريحا وجب قتله ونقل ابو بكر الفارسي احد ائمه الشافعية في كتاب الاجماع ان من سب النبي ﷺ بما هو قدف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة.

[نيل الاوطار ص ۲۱۴/۷]

حدیث ابن عباس فی شتمها اور حدیث شعی میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص نبی ﷺ کو گالیاں دے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابن المنذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص صریحاً نبی ﷺ کو گالیاں دے اس کا قتل مکرنا واجب ہے۔ ابو بکر فارسی جو ائمہ شافعیہ میں سے ہیں نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جو شخص نبی ﷺ کو گالیاں دے تو وہ تمام ائمہ کے نزدیک کافر ہے اگر وہ توبہ بھی کر لے تو پھر بھی اس سے سزاۓ قتل ساقط نہیں ہو سکتی کیونکہ قذف کی حد قتل ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔

امام سندھی فرماتے ہیں:

فِيَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْذَمِيَّ إِذَا مُلْمِنَ عَنِ اللَّهِ  
وَرَبِّهِ لِفَلَادِمَةٍ لَهُ فَيُحَلَّ قَتْلَهُ۔ [حاشیہ نسائی]

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذمی آدمی جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف زبان درازی سے بازنہ آئے تو اس کا معابدہ ختم اور اس کا قتل جائز ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں:

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وَجْهَ بُرْدَةٍ  
وَلَكِنْ إِذَا كَانَ السَّابِ ذَمِيًّا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ مَالِكٌ  
ابْنُ أَنْسٍ مِنْ شَتْمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قُتْلٌ  
إِلَّا إِنْ يَسْلِمْ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ  
الشَّافِعِيُّ يَقْتَلُ الْذَمِيُّ إِذَا سَبَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَبَرَأَ مِنْهُ الْذَمِيَّةُ  
وَاحْتَجَ فِي ذَلِكَ بِخَبْرِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَحَكَى عَنْ  
ابْنِ حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْتَلُ الْذَمِيُّ بِشَتْمِ النَّبِيِّ ﷺ مَا هُمْ  
عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِكِ أَعْظَمُ۔ [معالم السنن ۲/ ۲۰۵]

شامِ رسول ﷺ کے قتل کے واجب ہونے میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن جب شامِ ذمی ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک و احمد بن حنبل کے نزدیک یہود و نصاری میں سے کوئی بھی آپ ﷺ کو گالیاں دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ الایہ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ امام شافعی

فرماتے ہیں ذمی آدمی اگر آپ ﷺ کو گالی دے تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے معابدہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس سلسلہ میں کعب بن اشرف کے قتل والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک شامم ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ جس کفریہ شرکیہ عقیدہ میں بنتا ہے وہ آپ ﷺ کو گالیاں دینے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔

### ③

حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من سب نبیا قتل ومن سب اصحابه جلد.

[الصارم المسلول ص ۹۲]

جس نے نبی ﷺ کو گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے آپ کے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ کو گالی دینے والے کا قتل واجب ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسے توبہ کا مطالبہ کئے بغیر قتل کیا جائے نیز یہ کہ قتل اس کے لیے حد شرعی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک کسی نبی کو بھی جو گالیاں دے گایا برا کہے گا تو وہ قتل کا مستحق ہے اور جو صحابہ میں سے کسی کو برا کہے گا اسے کوڑے لگانا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام لیوا صاحبان کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔

④

حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کنت عند ابی بسکر فتغیظ علی رجل، فاشتد علیه،  
 فقلت تاذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ اضرب عنقه، قال:  
 فاذهب کلمتی غضبہ، فقام فدخل، فارسل الی فقال  
 ما الذی قلت انفأ قلت ائذن لی اضرب عنقه قال  
 اکنت فاعلاً لومارتک، قلت: نعم، قال: لا والله ما کان  
 لیشیر بعد محمد ﷺ.

[ابوداؤد، کتاب الحدود، باب الحكم فی من سب النبی ﷺ رقم (۴۳۶۲) ونسانی ۲/۱۶۲]

میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ رضی اللہ عنہ کی شخص  
 سے ناراض ہوئے تو وہ شخص درشت کلامی پر اتر آیا میں نے کہا اے  
 خلیفہ رسول! آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردان اڑا  
 دوں؟ میرے ان الفاظ سے ان کا سارا غصہ جاتا رہا وہ وہاں سے  
 اٹھ کر گھر چلے گئے اور مجھے بلا بھیجا میں گیا تو مجھ سے فرمایا کہ ابھی تم  
 نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یہ کہا تھا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں  
 اس شخص کی گردان اڑا دوں۔ فرمایا اگر میں تم کو حکم کرتا تو تم یہ کام  
 کرتے؟ عرض کیا آپ فرماتے تو ضرور کرتا فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم  
 یہ بات [کہ بد کلامی پر گردان اڑا دی جائے] محمد ﷺ کے بعد کسی  
 کے لیے نہیں۔

مطلوب یہ کہ صرف رسول اللہ ﷺ کی شان میں بذبانی کرنے والا سزاۓ موت کا مستوجب ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں جس کی بدگوئی کرنے والے کو سزاۓ موت دی جائے۔

**شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:**

فعلم ان النبی ﷺ کان له ان يقتل من سبه ومن اغلظ له وان له ان يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا بیبح دمه وعلى الناس ان يطیعوه في ذلك لانه لا يأمر الا بما امر الله به ولا يأمر بمعصية الله قط بل من اطاعه فقد اطاع الله فقد تضمن الحديث خصوصیتین لرسول الله ﷺ احدهما انه يطاع في كل من امر بقتله والثانية ان له ان يقتل من شتمه واغلظ له وهذا المعنی الثاني الذي کان له باق في حقه بعد موته فكل من شتمه او اغلظ في حقه کان قتلہ جائزًا بل ذلك بعد موته او کد واو کد لان حرمتہ بعد موته اکمل والتسلسل في عرضه بعد موته غير ممکن وهذا الحديث یفید ان سبہ في الجملة بیبح القتل ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم.

[الصارم المسلول ص ۹۴]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کریم ﷺ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے گالی دینے والے کو قتل کر دیں۔ آپ ﷺ کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیں جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ علم نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اس معاملہ میں لوگوں کو آپؐ کی اطاعت کرنا چاہیے اس

لیے کہ آپ اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہو آپ اللہ کی نافرمانی کا بھی حکم نہیں دیتے۔ جو آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم کی دو خصوصیات ہیں۔  
 ۱:- آپ جس کو قتل کرنے کا حکم دیں اس میں آپ ﷺ کی اطاعت کی جائے۔  
 ۲:- جو شخص آپ ﷺ کو گالیاں دے اور بری کلام کرے آپ ﷺ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔

آپ ﷺ کو یہ دوسرا اختیار جو دیا گیا تھا وہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے لہذا جو شخص آپ ﷺ کو گالی دے یا آپ ﷺ کی شان میں سخت الفاظ کہے اسے قتل کرنا جائز ہے بلکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد یہ حکم موکد تر ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ ﷺ کا تقدس اور حرمت وفات کے بعد اور زیادہ کامل ہو جاتی ہے۔ اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی ناموس و آبرو میں سہل انگاری اور تغافل شعاری ممکن نہیں اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو مطلقاً قیلت و کثرت کو ملحوظ رکھے بغیر گالی دینے سے ایسے شخص کا قتل مباح ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں اس حدیث کے عموم سے اس امر پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے قطع نظر اس سے کہ وہ مسلم ہو یا کافر۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ زیر بحث پر قرآن و سنت کے نصوص اور صحابہ و تابعین کا مسلسل تأمل ذکر کرتے ہوئے آخر میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے ان کو برا بھلا

کہا اور ان کی ہٹک عزت کی [ غالباً اس علاقے کے گورنر نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے استصواب کیا ہو گا کہ ایسے مفسد شخص کو قتل کر دیا جائے؟ اس کے جواب میں] حضرت عمر بن عبد العزیز نے گورنر کو لکھا کہ قتل صرف اس شخص کو کیا جاتا ہے جو شان رسالت میں دریدہ و نی کرے لہذا اس شخص کو قتل تو نہ کیا جائے البتہ سر زش کے لیے اس کے سر پر اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ اور یہ کوڑے لگانا بھی محض اس شخص کی اصلاح اور بہتری کے لیے ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کے کوڑے لگانے کا بھی حکم نہ دیتا۔

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزیز وهو خليفة راشد، عالم بالسنة متبع لها فهذا قول أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين لهم باحسان لا يعرف عن صاحب ولا تابع خلاف لذلك بل اقرار عليه واستحسان له .

[الصارم المسلول ص ۲۰۵]

اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ واقعہ مشہور ہے جبکہ وہ خلیفہ راشد ہیں قرآن و سنت کے عالم اور بے حد تبع سنت ہیں پس شاتم رسول کا واجب القتل ہونا صحابہ و تابعین کا اجماعی فیصلہ ہے کسی ایک صحابی اور ایک تابعی سے بھی اس کے خلاف منقول نہیں۔

خلاصہ یہ کہ اسلامی قانون کی رو سے توہین رسالت کا مرتكب سزاۓ موت کا مستحق ہے اور اس مسئلہ پر تمام صحابہ و تابعین اور فقہاء امت متفق ہیں۔

## 5

حضرت عبد اللہ بن عباس فیضہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ:  
 هجت امرأة من خطمة النبي ﷺ فقال من لي بها فقال رجل  
 من قومها أنا يارسول الله فنهض فقتلها فاخبر النبي ﷺ فقال  
 لا ينتفع فيها عنزان۔ [الصارم المسلول ص ۹۴]

خطمه قبلیہ کی ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی بھوکی آپ نے فرمایا اس  
 عورت سے کون نہیں گا اس کی قوم سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ! یہ کام  
 میں انعام دوں گا چنانچہ اس نے جا کر اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا  
 دو بکریاں اس میں سینگوں سے نہیں نکراتیں:

وقدی نے اس واقعہ کو پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ  
 عصماء بنت مروان، بنت امیہ بن زید کے خاندان سے تھی اور زید بن حصن الخطمی  
 کی بیوی تھی۔ یہ رسول کریم ﷺ کو ایذا دیا کرتی تھی۔ اسلام میں عیب نکالتی  
 اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی۔ عمر بن عدی الخطمی کو جب اس کی  
 باتوں اور اشتعال بازی کا علم ہوا تو اس نے کہا اے اللہ ! میں تیرے حضور  
 نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے رسول اللہ ﷺ کو بخیر و عافیت مدینہ لوٹا دیا تو میں  
 اس عورت کو قتل کر دوں گا۔ رسول کریم ﷺ اس وقت بدر میں تھے جب آپ  
 بدر سے واپس آئے تو عمر بن عدی آدمی رات کے وقت اس عورت کے گھر  
 میں داخل ہوئے اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے ایک بچہ اس  
 کے سینے کے ساتھ چھٹا ہوا تھا اور وہ اسے دودھ پلا رہی تھی عمر نے اپنے ہاتھ

سے عورت کو ٹھوڑا تو معلوم ہوا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ عمیر نے بچے کو الگ کیا پھر اپنی تلوار کو اس کے سینے پر رکھا اور اس کی پشت کے پار کر دیا۔

پھر صبح کی نماز رسول ﷺ کے پیچھے ادا کی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عمیر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے بنت مروان کو قتل کر دیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! میرا ماں باپ آپ پُر قربان ہو۔ عمیر اس بات سے ڈرا کہ اس نے رسول ﷺ کی مرضی کے خلاف کام کیا ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا اس ضمن میں مجھ پر کوئی چیز واجب ہے فرمایا نہیں دو بکریاں اس میں سینگوں سے نہیں نکراتی۔ یہ فقرہ پہلی مرتبہ رسول ﷺ کے سنا گیا۔ عمیر کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا اگر تم ایسا شخص دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی ہے تو عمیر کو دیکھ لو۔

جب حضرت عمیر ﷺ رسول ﷺ کے یہاں لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ اس عورت کے بیٹے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسے دفن کر رہے ہیں۔ جب سامنے آتے دیکھا تو وہ لوگ عمیر ﷺ کی طرف آئے اور کہا اے عمیر! اسے قتل کیا ہے؟ عمیر نے کہا ہاں، تم نے جو کرتا ہے کرلو اور مجھے ڈھیل نہ دو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سب وہ بات کہو جو وہ کہا کرتی تھی تو میں اپنی تلوار سے تم پردار کروں گا یہاں تک کہ میں مارا جاؤں یا تمہیں قتل کروں۔ اس دن سے اسلام بنی خطمه میں چھیل گیا۔ قبل ازیں ان میں سے کچھ آدمی ڈر کے مارے اپنے اسلام لانے کو پوشیدہ رکھتے تھے۔

واقدی نے لکھا ہے کہ بنو عمرو بن عوف میں ایک شیخ تھا جس کو ابو عفک کہتے تھے۔ نہایت بوڑھا تھا اور اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی یہ شخص مدینہ آ کر رسول اللہ ﷺ کی عداوت پر بھڑکایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب رسولِ کریم ﷺ بدر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح دکارانی سے نوازہ تو وہ حسد کرنے لگا اور بغاوت پر اُتر آیا اس نے رسولِ کریم ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مذمت میں ایک ہجوبیہ قصیدہ کہا۔

سالم بن عمیر نے نذر مانی کہ میں ابو عفک کو قتل کروں گا یا اسے قتل کرتے ہوئے مارا جاؤں گا۔ سالم غفلت کی تلاش میں تھا۔ موسم گرما کی ایک رات تھی ابو عفک موسم گرما میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے صحن میں سور ہاتھا۔ اندر میں اشناہ سالم بن عمیر آیا اور تلوار اس کے جگہ پر رکھ دی۔ دشمن بستر پر چینخنے لگا اس کے ہم خیال بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے پہلے اس کے گھر میں لے گئے اور پھر قبر میں دفن کر دیا۔ کہنے لگے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ بخدا! اگر ہم کو قاتل کا پتہ چل جائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَهَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ وَاضْحَىَ عَلَىِ أَنَّ الْمُعَاهَدَ إِذَا اظْهَرَ السَّبِيلَ يَنْقُضُ عَهْدَهُ وَيَقْتُلُ غَيْلَهُ لَكِنَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَغَازِيِّ وَهُوَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُؤْيِداً مَؤْكِداً بِلَا تَرْدُدٍ۔ [الصارم المسلول ص ۱۰۴] اس واقعہ میں اس امر کی واضح دلیل موجود ہے کہ معاهد اگر علانیہ نبی ﷺ

کو گالیاں دے تو اس کا عہد ثوث جاتا ہے اسے دھوکے سے قتل کیا جاسکتا ہے مگر یہ اہل مغازی کی روایت ہے اور بلاشبہ دوسری روایات کی موئید وموکد ہو سکتی ہے۔

7

## کعب بن اشرف یہودی کا قتل

ساتویں حدیث جس سے حضرت امام شافعیؓ نے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ ذمی اگر رسول کریم ﷺ کو گالیاں دے تو اسے قتل کیا جائے۔ اس کا عہد و امان اس سے باقی نہیں رہتا وہ کعب بن اشرف کا واقعہ ہے۔

امام خطابی المعلم میں [ص/۲۵۵] پر حضرت امام شافعیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ذمی اگر رسول کریم ﷺ کو گالیاں دے تو اسے قتل کیا جائے اس فعل سے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس پر انہوں نے کعب بن اشرف کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔

حضرت امام شافعیؓ کتاب الام میں فرماتے ہیں:

رسول کریم ﷺ کے سامنے یا آپؐ کے قرب و جوار میں یہود مدینہ کے سوا کوئی مشرک کتابی نہ تھا یہ انصار کے حليف تھے اور انصار نے رسول اللہ ﷺ کی آمد کے آغاز میں اسلام لانے کا پختہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ یہود نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ مصالحت کر لی اور جنگ بدر کے بعد یہودیوں نے اظہار عداوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو آپؐ کے خلاف بھڑکانے لگے۔ چنانچہ

رسول کریم ﷺ نے بھی یہود کے خلاف جنگ و پیکار کا ارادہ کیا اس ضمن میں پہلا واقعہ کعب بن اشرف کا پیش آیا۔

مدینہ منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پہنچی تو کعب بن اشرف کو بے حد صدمہ ہوا اور یہ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے تو پھر زمین کا بطن [اندرون] اس کی ظہر [پشت] سے بہتر ہے یعنی مر جانا، جیتنے سے بہتر ہے تاکہ آنکھیں اس ذلت اور رسولی کو نہ دیکھیں۔

لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو مقتولین بذر کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہوا اور جو لوگ بدر میں مارے گئے ان پر مر ہیے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کر خود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رُلاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش دلا دلا کر آمادہ قتال کرتا تھا۔ ایک روز قریش کو حرم میں لے کر آیا سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے لڑائی کرنے کا حلف اٹھایا پھر بعد ازاں مدینہ واپس آیا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کئے۔ [زرقاں ۶/۲۹]

کعب بن مالک ۃثیرہ راوی ہیں کہ کعب بن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا اور کفار مکہ کو رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کے لیے ہمیشہ بھڑکاتا رہتا تھا اور مسلمانوں کی طرح طرح کی ایذا ایں پہنچاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو صبراً و تحمل کا حکم فرماتے رہے لیکن جب کسی شرارت سے بازنہ آیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ ﷺ کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور کچھ آدمی متعین کر دیئے کہ جب آپ ﷺ تشریف لائیں تو قتل کر دالیں۔ آپ ﷺ آکر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل الائیں نے آکر آپ ﷺ کو ان کے ارادے سے مطلع کر دیا آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سایہ میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی کے بعد قتل کا حکم دیا۔

[فتح الباری / ۲۲۸]

صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من لکعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يارسول الله اتحب ان اقتله قال نعم قال فاذن لي ان اقول شيئاً قال: قل.  
[البخاري / ۲ / ۸۸۷]

تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو بہت ایذا پہنچائی ہے یہ سننے ہی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اُس کا قتل چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیئے [یعنی اسے مبہم اور تعریفی کلمات اور ذر و معنی الفاظ] کہہ سکوں جن کوں کروہ بظاہر خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء ن艮تو میں کہا کہ یہ مرد [یعنی رسول اللہ ﷺ] ہم سے فقراء و مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے [

صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے یہ چیز حر یص اور طامح نفوس پر بہت شاق اور گراں ہے لیکن مخلصین اور صادقین کو صدقہ دل سے صدقات کا دینا اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت درجہ لذیز ہے بلکہ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا ان پر شاق اور گراں ہے۔

میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب نے کہا  
 ابھی کیا ہے آگے چل کر دیکھنا خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رض نے کہا کہ اب تو ہم ان کے پیرو ہو چکے ہیں ان کو چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں [اور دل میں یہ تھا کہ انجام کار اللہ اور اس کے رسول کی فتح اور دشمنوں کی شکست یقینی اور محقق جس میں شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں] اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ غلہ بطور قرض دے دیں۔ کعب نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں۔ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں اس کو غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی پھر یہ کہ آپ نہایت حسین و جیل اور نوجوان ہیں۔ کعب نے کہا آپ اپنے لاکوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری عمر کی عار ہے لوگ ہماری اولاد کو یہ طعن دیں گے کہ تم وہی ہو جو دو اور تین سیر غلہ کے معاوضہ میں رہن رکھے گئے تھے۔ ہاں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔

عکرمہ رض کی ایک مرسل روایت میں ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ

آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ لیکن باس ہمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتوں اور بیٹیوں کو رکھ دیں۔ کعب نے اس کو منظور کیا اور وعدہ ٹھہرایا کہ شب کو آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار رہن رکھ جائیں۔

حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی کعب نے اپنے قلعہ سے اترنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے کوئی غیر نہیں تم فکرنا کرو بیوی نے کہا مجھے اس آواز سے خون ٹکتا ہو انظر آتا ہے۔ کعب نے کہا شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلا یا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ اس اثناء میں محمد بن مسلمہ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال سوگھوں گا۔ جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو فوراً اس کا سرا تار دینا۔ چنانچہ جب کعب پہنچے آیا تو سرتابا خوبصورت سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ ﷺ نے کہا کہ آج جیسی خوبصورتی میں نے کبھی سوگھی ہی نہیں۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و حمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ ﷺ نے کہا کیا آپ مجھ کو اپنے معطر سر کے سوگھنے کی اجازت دیں گے۔ کعب نے کہا ہاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ ﷺ نے آگے بڑھ کو خود بھی سر کو سوگھا اور اپنے رفقاء کو بھی سوگھایا۔ کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ ﷺ نے کہا کیا آپ دوبارہ اپنے سر سوگھنے کی اجازت دیں گے کہ کعب نے کہا شوق سے۔ محمد بن مسلمہ ﷺ اپنے سر سوگھنے میں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوط

پکڑ لئے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا فوراً ہی سب نے اس کا سر قلم کر دیا اور آنکھاں اس کا کام تمام کیا۔ پھر اخیر شب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی یہ ارشاد فرمایا: اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ اَنْ چَرُولَ نَفَاحٌ پائی اور کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں نے جواباً عرض کیا: وَوَجْهُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ۔ اور سب سے پہلے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسول! اور بعد ازاں کعب بن اشرف کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے الحمد للہ کہا اور اللہ کا شکردا کیا۔

[فتح الباری ۲۴۰/۷]

جب یہود کو اس واقعہ کا علم ہوا تو یک لخت مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے اور جب صحیح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے خلاف قتال پر برائیختہ کرتا اور آمادہ کرتا تھا۔ یہود ممکنہ خود رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے اور بعد ازاں آپ نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے گا۔ [طبقات ابن حجر ۲/۳۳]

## کعب بن اشرف کے قتل کے اسباب

روايات حدیث سے کعب بن اشرف کے قتل کے جو ذریعہ اور اسباب

معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱: نبی اکرم ﷺ کی شان میں دریدہ و فنی اور سب و شتم اور گستاخانہ کلمات کا زبان سے نکالنا۔

- ۲: آپ ﷺ کی ہجومیں اشعار کہنا۔
  - ۳: غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کو بطور تشہیب ذکر کرنا۔
  - ۴: غدر اور نقض عہد۔
  - ۵: لوگوں کو آپ ﷺ کے مقابلہ میں ابھارنا اور اکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا۔
  - ۶: دعوت کے بہانہ سے آپ ﷺ کے قتل کی سازش کرنا
  - ۷: دین اسلام پر طعن کرنا
- لیکن قتل کا سب سے قوی سبب آپ ﷺ کی شانِ اقدس میں دریدہ وہی اور سب و شتم اور آپ ﷺ کی ہجومیں اشعار کہنا ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الصارم المصلول علی شاتم الرسول“ میں ص ۷۰۷ تا ۹۱۹ پر اس پر مفصل کلام کیا ہے۔

امام زہری سے مروی ہے کہ یہ آیت

﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ  
أَشْرَكُوا أَذْيَى كَثِيرًا﴾۔ [آل عمران: ۱۸۶]

”البتة سنو گے تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت بد گوئی اور بذبانبی۔“

کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ [عیون الاعراض: ۱/۳۰۰]  
ذکورہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شاتم رسول ﷺ کی سزا میں  
دستی اور بھائی کا رشتہ بھی مانع نہیں آتا۔

امام عبدالرازاق بن الہمام الیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ سے اہل علم

واقف ہیں۔ یہ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کے جلیل القدر استاذ اور تبع تابعی ہیں ان کے مجموعہ احادیث کا نام ”المصنف“ ہے۔ اس میں اکثر احادیث ثلاثی ہیں اور امام بخاری کی تصریح کے مطابق تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اس میں امام صاحب نے ”سپت النبی“ کا علیحدہ باب قائم کیا ہے۔

جس میں چند حدیثیں نقل کی ہیں چنانچہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دُشنا م طرازی کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کون ہے جو ہمارے اس دشمن کی خبر لے گا؟ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جا کر اس گستاخ کو قتل کر دیا تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کی سلب عطا کر دی۔ [ص ۳۰۷/۰]

(۲) ایک بدجنت عورت آپ کو گالیاں دیتی رہتی تھی۔ آپ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ [ص ۳۰۷/۵]

(۳) ایک نصرانی شخص کے بارے میں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دی تھیں جس پر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ [ص ۳۰۷/۰]

(۴) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ کی مکنذیب کی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ [ص ۳۰۸/۰]

(۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کی توہین کی اس کی گردان مار دی جائے۔ [ص ۳۰۸/۱]

قاضی عیاض نے کتاب الشفاء میں ابن قانع سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے والد کو آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے سناتو یہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے اس باز پر س نہیں فرمائی۔

[الشفاء ص ۴۸۹ ج ۲]

⑧

## ابن سبینہ یہودی کا قتل

کعب بن اشرف کے قتل کے بعد رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حویصہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیصہ بن مسعود نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا جو تجارت کرتا تھا اور خود حویصہ اور محیصہ اور دیگر اہل مدینہ سے داد و سد کا معاملہ رکھتا تھا۔

حویصہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے سے مسلمان تھے۔ حویصہ چونکہ عمر میں بڑے تھے۔ محیصہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو نے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تیرے میٹ میں ہے۔ محیصہ نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات بابرکات تیرے قتل کا بھی حکم دیتی تو والہ تیری بھی گردن اڑا دیتا۔ حویصہ نے کہا کیا اللہ کی قسم اگر محمد ﷺ تجوہ کو میرے قتل کا حکم دیں تو واقعی تو مجھ کو قتل کر ڈالے گا محیصہ نے کہا ان اللہ کی قسم اگر تیری گردن مارنے کا

حکم دیتے تو ضرور تیری گردن اڑا دیتا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ حویصہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ یہ بول اٹھے کہ اللہ کی قسم یہی دینِ حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راضخ اور مشکم اور رُگ و پے میں اس درجہ جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد حویصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پچ دل سے اسلام قبول کیا۔

[استیعاب ۱۴۶۳/۴]

## ۹

یہ واقعہ علماء تسلیم کے نزدیک مشہور ہے کہ آخری واقعہ جو خزانہ اور کنانہ کے مابین پیش آیا وہ یہ ہے کہ انس بن زینم الدینی نے رسول اللہ ﷺ کی بھجو کی۔ قبیلہ خزانہ کے ایک لڑکے نے سن لیا اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر چوت ماری وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اپنا زخم دکھایا۔ فتنہ بازی کا آغاز ہوا۔ بنو بکر پہلے ہی خزانہ سے اپنے خون کا مطالبہ کر رہے تھے۔

وقدی نے لکھا ہے کہ عمرو بن سالم خزانی قبیلہ خزانہ کے چالیس سواروں میں رسول اللہ ﷺ سے مدد طلب کرنے کے لیے نکلا۔ انہوں نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا جو ان کو پیش آیا تھا اور اس قصیدے کا بھی ذکر کیا جس کا پہلا مصروف یہ ہے۔

لَا هم إِنِّي نَاشِدُ مُحَمَّداً.

اور جب قافلہ والے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! انس بن زینم الدینی نے آپ ﷺ کی بھوکی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے

خون کو ہدر قرار دے دیا۔ جب انس بن زئیم کو پتہ چلا تو وہ معدورت طلبی کے لیے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں مدحیہ کہا وہ آپ ﷺ کو سنایا۔

واقدی کہتے ہیں کہ ”حرام“ نامی شخص نے مجھے وہ قصیدہ سنایا۔ رسول کریم ﷺ کے پاس وہ قصیدہ بھی پہنچا اور اس نے جو معدورت چاہی تھی وہ بھی پہنچی اور نو فل بن معاویہ الدیلی آپ ﷺ سے ہم کلام ہوا اس نے عرض کیا رسول اللہ! آپ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ معاف کرنے کے اہل ہیں، ہم میں سے کون ہے جس نے آپ سے عداوت نہ رکھی ہو اور آپ ﷺ کو ستایا نہ ہو۔ دورِ جاہلیت میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا چیزیں لیں اور کیا نہ لیں حتیٰ کہ آپ کے ذریعہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور آپ ﷺ کی وجہ سے ہمیں ہلاکت سے چھڑایا قافلہ والوں نے اس پر جھوٹ باندھا اور آپ کے پاس مبالغہ آمیزی سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا قافلہ کا ذکر چھوڑ دیئے ہم نے سرز میں تہامہ میں کسی دور و نزدیک کے رشتہ دار کو نہیں دیکھا جو خزانہ سے زیادہ اطاعت شعار ہو۔ آپ نے نو فل بن معاویہ کو خاموش کر دیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے اس معاف کیا نو فل نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔

[کتاب المغاری ۲/۷۹۱]

## اس واقعہ سے وجہ استدلال

وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ والے سال دس

برس کے لیے قریش کے ساتھ مصالحت کر لی تھی۔ قبیلہ خزانہ آپ ﷺ کا حلیف بن گیا تھا ان میں سے اکثر مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے مسلم اور کافر رسول کریم ﷺ کے لیے ہمہ تن پیکر ہمدرد و خیرخواہ تھے۔ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے یہ سب لوگ آپؐ کے معاهد بن گئے۔ اور یہ وہ بات ہے جو نقل متواتر سے ثابت ہے اور اہل علم کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

انس بن زینم کے بارے میں آپ ﷺ کو بتایا گیا تھا کہ معاهد ہونے کے باوجود اس نے آپؐ کی ہجومی ہے۔ چنانچہ قبیلہ خزانہ کے کسی آدمی نے اس کے سر پر چوت ماری اور رسول کریم ﷺ کو بتایا کہ اس نے آپؐ کی ہجومی کھٹکی ہے۔ اس سے ان کا مقصد رسول کریم ﷺ کو بنو بکر کے خلاف بھڑکانا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے اس کے خون کو ہدر قرار دے دیا اور کسی اور کے خون کو ہدر قرار نہ دیا۔ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ معاهد کی ہجومی کہنے سے اس سے انتقام لینا واجب ہو جاتا ہے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اسی وجہ سے رسول کریم ﷺ نے اس کے خون کو ہدر قرار دیا حالانکہ اس نے معاهد ہوتے ہوئے ہجومی کا ارتکاب کیا تھا لہذا یہ اس ضمن میں نص ہے کہ ہجومی کو معاهد کا خون مباح ہو جاتا ہے۔

بعد ازاں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اپنے اشعار میں اسلام لانے کا اظہار کیا اسی لیے اسے آپؐ کے صحابہ میں شمار کیا گیا ہے اس کے اشعار میں یہ الفاظ کہ ”تعلیم رسول اللہ اور نبی رسول اللہ“ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ پہلے اسلام لا چکا تھا۔ یا یہ کہ اس کو یوں کہنا ہے۔ اس کا اسلام لانا ہے۔ اس لیے

کہ بت پرست جب کہے ”محمد رسول اللہ“ تو اسے مسلم قرار دیا جائے گا۔ اس نے ہجو گوئی سے انکار بھی کیا تھا اور ان لوگوں کی شہادت کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ وہ اس کے دشمن ہیں اس لیے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان عرصہ سے حرب و ضرب کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اگر اپنی اس حرکت سے وہ مباح الدم نہ ہو جاتا تو اسے اس بات کی ضرورت نہ تھی۔

پھر اس نے اسلام لانے، معدرت خواہی، مخبرین کی تردید اور رسول کریم ﷺ کی مدح گوئی کے بعد اس نے خون کو ہدرا قرار دینے کے بارے میں رسول کریم ﷺ سے معافی طلب کی حالانکہ معافی تب دی جاتی ہے جب جرم کی سزا دینے کا جواز موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام لانے اور معدرت خواہی کے بعد بھی آپؐ اسے سزا دے سکتے تھے۔ مگر آپؐ نے تحمل وبر دباری کے پیش نظر اس پر کرم نوازی فرمائی اور اسے معاف کر دیا۔

[الصارم المسلول ص ۱۰۶]

## ⑩

عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الانصار فامر عليهم عبد الله بن عتيك وكان يأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. [بخاري ٤/ ١٤٨٢]

رسول اللہ ﷺ نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کا انتخاب فرمایا جن پر امیر عبد اللہ بن عتیک کو مقرر کیا گیا۔ اور یہ

ابورافع رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتا تھا اور آپؐ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔

## ابورافع یہودی کا قتل

ابورافع کے قتل کا واقعہ جو گتب حدیث و کتب تاریخ و سیر میں ذکر کیا گیا ہے اسے مفصل طور پر ملاحظہ فرمائیں۔

ابورافع ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا۔ ابورافع اس کی کنیت تھی عبد اللہ بن ابی الحقیق اس کا نام تھا۔ سلام بن ابی الحقیق بھی کہتے تھے۔ خیبر کے قریب گڑھی میں رہتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپؐ کو ایذا دا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ کعب بن اشرف کا معمین اور مددگار تھا۔ یہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر ابھار کر لایا تھا اور بہت زیادہ ان کی مالی امداد کی اور ہمیشہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی عداوت میں روپیہ خرچ کرتا رہتا تھا۔

[البداية والنهاية / ۱۳۸]

کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقاء شیعہ شیعہ چونکہ سب قبیلہ اوس کے تھے اس لیے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ ﷺ کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے ایک گستاخ اور دریدہ وہمن کعب بن اشرف کو قتل کر کے سعادت اور شرف حاصل کر لیا لہذا ہم کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے گستاخ اور دریدہ وہمن ابورافع کو قتل کر کے دارین کی عزت و رفتخار حاصل کریں۔ چنانچہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابورافع کے قتل کی اجازت چاہی تو آپؐ نے اجازت دے دی۔ اور

عبداللہ بن عتیک، مسعود بن سنان، عبد اللہ بن انبیس، ابو قادہ، حارث بن ربیعی اور خزاںی بن اسود عقیل بن عینہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا اور عبد اللہ بن عتیک کو ان پر امیر بنایا اور تاکید فرمائی کہ کسی بچہ اور عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا۔

[فتح الباری ۳۴۲/۷]

نصف جمادی الآخری ۳ھ کو حضرت عبد اللہ بن عتیک مع اپنے رفقاء کے خبر کی طرف روانہ ہوئے۔ [تاریخ طبری ۲/۲]

صحیح بخاری میں حضرت براء بن عاذب سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد لوگ اپنے جانور چڑاگاہ سے واپس لاچکے تھے تب یہ لوگ خبر پہنچے۔ ابو رافع کا قلعہ جب قریب آگیا تو حضرت عبد اللہ بن عتیک نے اپنے رفقاء سے کہا تم بیہیں بیٹھو میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ جب بالکل دروازہ کے قریب پہنچ گئے تو کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاۓ حاجت کرتا ہو۔ دربان نے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے یہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے! اگر اندر آتا ہے تو جلد آ جائیں دروازہ بند کرتا ہوں میں فوراً داخل ہو گیا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔

ابو رافع بالا خانہ پر رہتا تھا اور شب کو قصہ گوئی ہوتی تھی جب قصہ گوئی ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر کے چاپیوں کا حلقة ایک جگہ پر لٹکا دیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں انھا اور کھونٹی سے چاپیوں کا حلقة اتار کر دروازہ کھولتا ہو بالا خانہ پر پہنچا اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو اگر میری خبر ہو جائے تو میں اپنا کام کر گذروں۔

جب میں بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سورا تھا مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابو رافع کہاں اور کہاں ہے میں نے آواز دی اے ابو رافع! ابو رافع نے کہا کون ہے؟ میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کاوار کیا مگر خالی گیا ابو رافع نے ایک چینچ ماری میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بد لی ہمدردانہ لہجہ میں کہا ابو رافع یہ کیسی آواز ہے؟ ابو رافع نے کہا ابھی مجھ پر کسی شخص نے تلوار کاوار کیا ہے یہ سنتے ہی میں نے تلوار کا دوسراوار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا بعد ازاں میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے دبائی کہ پشت تک پہنچ گئی جس سے میں سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا۔ جب سیر ھی سے اترنے لگا تو یہ خیال ہوا کہ زمین قریب آگئی اترنے میں گر پڑا اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاندنی رات تھی عمائد کھول کر تا نگ کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم چلو اور رسول اللہ ﷺ کو بشارت سناؤ۔ میں بھیں بیٹھا ہوں اس کی موت اور قتل کا اعلان سن کر آؤں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے اذان دی تو خبر دینے والے نے قلعہ کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا۔ تب میں وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھیوں سے آملا اور کہا تیز چلو اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ وہاں سے چل کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی اور جو واقعہ گذر اتحادہ سب بیان کیا آپ نے فرمایا اپنی تا نگ پھیلا دی آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا ایسا معلوم ہوا گویا کہ کبھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی۔

## فتحِ مکہ اور عفوِ عام

فتحِ مکہ کے دن آپ ﷺ نے عفوِ عام کا اعلان کر دیا۔ جنہوں نے آپ کے راستے میں کائی بچھائے تھے اور جنہوں نے آپ پر پھر بر سائے تھے اور جو ہمیشہ آپ سے برسر پیکار رہے اور جنہوں نے آپ کی ایڑیوں کو لہو لہاں کیا تھا سب کو معافی دے دی گئی مگر چند اشخاص جو بارگاہ نبوی میں غایت درجہ گستاخ اور دردیدہ دہن تھے ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں ملیں قتل کر دیئے جائیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ ذوالجلال کا یہی حکم ہے۔

﴿مَلُوْنِينَ اِيَّنَا تَقْفُوا اُخْذُوا وَ قُلُوْنَاقْتَيْلَا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّيْلًا﴾.

[الاحزاب: ۶۱-۶۲]

”یہ ملعون جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور خوب قتل کئے جائیں جیسا کہ گذشتہ مفسدین کے بارے میں اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے آئین اور عادت میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔“

نبی مکرم ﷺ کی تو قیر و تعظیم اور ان کی نصرت و حمایت تمام امت پر فرض ہے ان کی بے حرمتی دینِ الہی کی بے حرمتی ہے و قال اللہ تعالیٰ  
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ. [الکوثر: ۳۲]

وقال الله تعالى : ﴿وَإِنْ نَكُثُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ ، بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعْنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعْلَهُمْ يَتَهَوَّنَ ۝ أَلَا تَقْاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوا إِيمَانَهُمْ وَ هُمُوا

بِاَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً اَتَخْشَوْنَاهُمْ  
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُسْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

[التوبہ: ۱۲ - ۱۳]

”اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو ان پیشوایاں کفر سے قبال کرو ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ اس قسم کی شرارتیوں سے باز آ جائیں۔ کیوں نہیں جنگ کرتے تم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور فکر کی پیغمبر کے نکانے کی اور عہد شکنی میں ابتداء کی کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو صرف اللہ ذوالجلال سے تم کو ڈرنا چاہیے اگر تم سچے مومن ہو۔“

یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کے نکانے کا فقط ارادہ اور قصد ہی کیا ان کے قبال میں اہل ایمان کو ذرہ برابر تأمل نہ ہونا چاہیے ان کی ظاہری قوت و شوکت اور مادی ساز و سامان سے خائف نہ ہوں۔ صرف اللہ سے ڈریں اور اس کے رسول ﷺ کی خاطر جان اور مال جو کچھ بھی درکار ہو اس سے دریغ نہ کریں اور ایسا یہ امر اہل عقل پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب دشمن، استہزاء اور تمسخر گستاخی اور دریدہ و نی کا جرم نکال دینے کے جرم سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حکومت اپنے سخت مجرم کو معافی دے سکتی ہے لیکن ملک معظم اور دیسیرائے کی شان میں گستاخی اور دریدہ و نی کرنے والے سے ایک لمحہ کے لیے انعام نہیں کر سکتی اس میں حکومت کی بے حرمتی اور بے وقتی ہے۔

علاوہ اذیں پیغمبر کی توہین اور بے حرمتی ساری امت کی توہین اور بے حرمتی ہے لہذا ہر امتی کا فرض ہے کہ جب آپ ﷺ کی شان میں گستاخی سے

توفیر اس کی جان لے لے یا اپنی جان دے دے۔

تشتم ایدینا و يحلم رأينا و نشتم بالافعال لا بالتكلم  
”ہمارے ہاتھ گالیاں دیتے ہیں اور ہماری رائے اور عقل حلم اور  
بردباری کرتی ہے ہم عمل سے گالیاں دیتے ہیں زبان سے نہیں۔“

قاضی عیاض کی کتاب ”الشفاء“ میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے  
جب امام مالک سے نبی اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم  
دریافت کیا تو امام مالک نے یہ ارشاد فرمایا۔

مابقاء الامة بعد شتم نبيها۔ [۴۹۲/۲]

اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک نصرانی نے رسول  
اللہ کی شانِ اقدس میں گستاخی کی تو امام موصوف نے چھ سو صفحات کی ایک ضخیم  
کتاب صرف اسی موضوع پر تصنیف فرمائی اور ”الصارم المسلط علی شاتم  
الرسول“ اس کا نام رکھا۔ جس میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع  
صحابہ و تابعین اور تعامل خلفاء راشدین اور عقل و دلائل و برائین سے شاتم رسول  
کا واجب القتل ہونا ثابت کیا ہے۔

الحاصل:- جن لوگوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن یہ حکم  
دیا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیئے جائیں تقریباً پندرہ سو لہ تھے۔ جن کی تفصیل  
حسب ذیل ہے۔

: عبد اللہ بن حطل یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے عامل

بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا ایک غلام اور ایک انصاری ساتھ تھے۔ ایک منزل پر پہنچ کر ابن حطل نے غلام کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ غلام کسی وجہ سے سو گیا جب بیدار ہوا تو ابن حطل نے دیکھا کہ اس نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا غصہ میں آ کر اس غلام کو قتل کر ڈالا بعد میں خیال آیا کہ رسول اللہ ﷺ ضرور مجھ کو اس کے قصاص میں قتل کریں گے۔ مرتد ہو کر مکہ چلا آیا اور مشرکین میں جاما اور صدقات کے اونٹ بھی ساتھ لے گیا۔ آپ ﷺ کی ہجومیں شعر کہتا تھا اور باندیوں کو ان اشعار کے گانے کا حکم دیتا۔ پس اس کے تین جرم تھے۔ ایک، خون ناحق دوسرا مرتد ہونا تیسرا جرم یہ کہ آپ کی ہجومیں شعر کہنا۔ ابن حطل فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گیا۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ابن حطل بیت اللہ کے پردے کو پکڑے ہوئے ہے آپ نے فرمایا وہیں قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ابو بزرہ اسلمی<sup>ؓ</sup> اور سعد بن حریث<sup>ؓ</sup> نے وہیں جا کر قتل کیا جس اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن اڑا دی گئی۔

[الصارم المسلول ص ۱۳۲ و زرقاني ۲/ ۳۱۴ و كتاب المغازى للواقدى ۲/ ۸۵۹]

### ۳ اور ۱۲

قرتی اور قریبہ یہ دونوں ابن حطل کی لوٹیاں تھیں شب و روز آپ کی ہجومگاتی رہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کسی مجلس میں جمع ہوتے تو شراب کا دور چلتا اور یہ دونوں آپ ﷺ کی ہجومیں اشعار پڑھتیں اور ہجومگاتی بجا تھیں ایک ان میں سے ماری گئی اور دوسری نے امن کی درخواست کی اس کو امن دے دیا گیا حاضر

ہو کر مسلمان ہو گئی۔

[زرقانی ۲/۳۱۵]

## ۴: سارہ، جاریہ بنوالمطلب

سارہ جاریہ بنوالمطلب کا خون بھی مباح قرار دے دیا تھا۔ یہ مکہ کی ایک مغفیتی تھی جو رسول اللہ ﷺ کی ہجوں کے اشعار گایا کرتی تھی۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جو حضرت حاطبؓ بن ابی بلجعہ کا خط لے کر مکہ روانہ ہوتی تھی۔ اس نے مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگدستی کی شکایت پیش کر کے آپؐ سے مدد مانگی تھی۔ جس پر آپؐ نے فرمایا کیا تمہیں اپنے گانے سے کچھ روپیہ نہیں ملتا؟ عرض کیا جب سے غزوہ بدربل میں قریش کے آدمی مارے گئے ہیں اس وقت سے انہوں نے گانا سننا ہی چھوڑ دیا ہے پس آپؐ نے اس پر ترس کھا کر ایک اونٹ پر غلہ بار کر کے عنایت فرمادیا جسے لے کر یہ مکہ واپس آگئی۔ ابن حضل انہیں رسول اللہ ﷺ کی شان میں ہجولکھ کر دیتا اور یہ گاتی تھی اسی بنا پر فتح مکہ کے دن رزو پوش ہو گئی مگر ان کے لیے رسول اللہ ﷺ سے امان کی درخواست کی گئی اور اس نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا اور کچھ مسلمان رہیں یہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہیں۔

[كتاب المغارى للواقدى ۲/۸۶۰]

## ۵: جویریث بن نقید

رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کا خون مباح قرار دیا تھا کیونکہ یہ آپؐ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا اور آپؐ ﷺ کی ہجو میں اشعار کہتا تھا۔ جب آپؐ ﷺ کہ میں تھے تو آپؐ ﷺ کو بہت اذیت

پہنچایا کرتا تھا اور جب آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ نے مکہ سے  
ہجرت فرمائی تو ان کے اونٹ کو لکڑی چھپو کر بھڑکانے میں یہ بھی ہمارا بن  
اسود کا شریک تھا اس لیے حضرت علیؓ نے اس کا کام تمام کر دیا۔

[کتاب المغاری للوادی ۲/۸۵۷]

## ۶: مقیس بن صباہ

یہ پہلے اسلام لے آیا تھا بعد میں اس نے ایک انصاری کو قتل کر دا۔  
جنہوں نے غزوہ ذی قرد میں اس کے بھائی ہشام بن صباہ کو وہمن کا آدمی سمجھ کر  
غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ پس یہ مقیس آیا اور اس نے بھائی کے خون بہا کی رقم  
بھی وصول کی پھر ان انصاری کو بھی قتل کر دا۔ پھر مرتد ہو کر قریش کے پاس  
واپس چلا گیا۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کا خون مباح قرار دے  
دیا۔ چنانچہ اسی کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبد اللہ لیش نے اسے قتل کر دا۔

[کتاب المغاری للوادی ۲/۸۶۱]

## ۷: عبد اللہ بن ابی سرح

یہ پہلے رسول اللہ ﷺ کے کاتب الوجی تھے مرتد ہو کر کفار سے  
جائے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کے رضائی بھائی تھے۔ فتح مکہ کے دن جان  
بچانے کی خاطر چھپ گئے۔ حضرت عثمانؓ ان کو لے کر خدمتِ اقدس میں  
حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ اس وقت بیعت لے لیجئے آپؐ نے کچھ دیر سکوت فرمایا  
اللہ عبد اللہ حاضر ہے اس سے بھی بیعت لے لیجئے آپؐ نے کچھ دیر سکوت فرمایا  
بالآخر حضرت عثمانؓ نے آپؐ سے کئی بار درخواست کی تو آپؐ نے عبد اللہ بن ابی

سرج سے بیعت لے لی اور اسلام قبول فرمایا۔ اس طرح ان کی جان بخشی ہوئی بعد میں صحابہؓ سے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھ دار نہ تھا کہ جب میں نے عبد اللہ کی بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا انھ کراس کو قتل کر ڈالتا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں نہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے اشارہ بازی زیبانیں۔

اس مرتبہ عبد اللہ بن ابی سرح نہایت سچائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں مصر وغیرہ کے والی اور حاکم رہے۔ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت ۲۷ھ یا ۲۸ھ میں افریقہ کی فتح کا سہرا انہی کے سرہا اور مالی غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک شخص کے حصہ میں تین ہزار دینار آئے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد قتوں سے بالکل عیحدہ رہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہؓ کی اخیر زمانہ امارت میں عسقلان میں وفات پائی۔ وفات کا عجیب واقعہ ہے ایک روز صبح کو اٹھے اور یہ دعا مانگی۔

اللهم اجعل اخر عملی الصبح.  
امے اللہ! میرا آخری عمل صبح کے وقت ہو۔

وضو کیا اور نماز پڑھائی دائیں جانب سلام پھیر کر دائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے کہ روح عالم بالا کو پروز کر گئی۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ [الاصابہ ۳۱۶/۲]

## ۸: عکرمه بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا خون آپ نے فتحِ مکہ کے دن مبارح کیا تھا۔ عکرمه، ابو جہل کے فرزند تھے۔ باپ کی طرح یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمن تھے۔ فتحِ مکہ کے بعد بھاگ کریں چلے گئے۔ عکرمه کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام اسلام لے آئیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے امن کی درخواست کی۔ رحمتِ عالم اور عفوِ مجسم ﷺ نے فرزندِ ابی جہل کے لیے امان کی درخواست کو فوراً قبول فرمالیا۔

عکرمه بھاگ کریں کے ساحل پر پہنچ کشتی پر سوار ہو گئے کشتی کا چلناتھا کہ تند ہوا وہ نے آکر کشتی کو گھیر لیا۔ عکرمه نے لات اور عزی کو مدد کے لیے پکارا۔ کشتی والوں نے کہا اس وقت لات اور عزی کچھ کام نہ دیں گے ایک اللہ کو پکارو۔ عکرمه نے کہا اللہ کی قسم اگر دریا میں کوئی چیز اللہ کے سوا کام نہیں آسکتی تو سمجھ کر خلکی میں بھی اللہ کے سوا کوئی چیز کام نہیں آسکتی اس وقت سچے دل سے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیا۔

اللهم ان لک علی عهد ان عافیتی ماما انا فيه ان آتی

محمدًا حتى اضع يدي في يده فلا جدن عفواً كريماً.

[النسائي، كتاب تحريم الدم، باب ما جاء في حكم المرتد]

اے اللہ! تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور یقیناً ان کو بڑا معاف کرنے والا

اور درگذر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔

ادھر سے عکرمه کی بیوی ام حکیم پہنچ گئیں اور کہا:

یا ابن عم جئتک من عند ابرالناس واوصل الناس و خیر  
الناس لا تهلك نفسك انى قد استأمنت لك رسول  
الله ﷺ.

”اے ابن عم! میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ صد  
رجی کرنے والے اور سب میں سے بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں  
تو اپنے آپ کو ہلاک مت کر میں نے تیرے لئے رسول اللہ ﷺ  
سے امان حاصل کر لی ہے۔“

یہ سن کر عکرمه ام حکیم کے ساتھ ہولیا راستہ میں مباشرت کا ارادہ کیا تو  
ام حکیم نے کہا کہ ابھی تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ عکرمه نے کہا کسی بڑی  
چیز نے تجھ کو روکا ہے اور یہ کہہ کر مکہ کا قصد کیا اور رسول اللہ ﷺ نے عکرمه کے  
پہنچنے سے پہلے ہی صحابہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

یأتیکم عکرمة مؤمنا فلا تسبو اباہ فان سب المیت  
یؤذی الحی۔

”عکرمه مومن ہو کر آرہا ہذا اس کے باپ کو برانہ کہنا کیونکہ مردہ کو  
بُرا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔“

عکرمه آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور آپؐ کے سامنے کھڑے  
ہو گئے اور بیوی ساتھ تھی وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور عرض

کیا کہ یہ میری بیوی حاضر ہے اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے مجھ کو امان دے دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس نے سچ کہا تجھ کو امان ہے۔ عکرمه نے کہا آپ ﷺ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس امر کی شہادت دو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اس کے علاوہ اور چند خصال اسلام کی تلقین فرمائی عکرمه نے کہا:

قد كنت الى الخير وامر حسن جميل قد كنت فيها  
يا رسول الله قبل ان تدعونا وانت اصدقنا حديثا وابرنا.  
بے شک آپ نے خیر اور مُستحبن اور پسندیدہ امری کے دعوت دی ہے اور یا رسول اللہ اس دعوت حق سے پیشتر بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ سچ اور نیکو کا رتھے۔

اور اس کے بعد کہا اشهد ان لا اله الا الله ان محمدًا عبده ورسوله۔ کلمہ شہادت کے بعد عکرمه نے کہا کہ میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔

[زرفانی ۲/۳۱۴]

پھر عکرمه ﷺ نے کہا یا رسول اللہ! میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں آپ نے عکرمه کے لیے دعائے مغفرت فرمائی عکرمه نے عرض کیا یا رسول اللہ! قسم ہے اللہ ذوالجلال کی جو خرچ میں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے۔ یہ کیا اب میں اللہ کی راہ میں دعوت دینے کے لیے اس سے ڈبل خرچ کروں گا۔ اور جس قدر رڑائی میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے

خلاف کی ہے اس سے ڈبل اللہ کی راہ میں کروں گا اور جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے اس مقام پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لیے لشکر روانہ کئے تو ان میں سے ایک لشکر کے سردار حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ الغرض باقی ساری عمر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمنوں سے جہاد میں گزاردی۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت میں جنگ اجنا دین میں شہید ہوئے جس پر تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے۔ [الاستیعاب لابن عبد البر/۲/۱۳۸]

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بار یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لیے جنت میں ایک خوشہ دیکھا جب عکرمہ مسلمان ہوئے تو آپؐ نے ام سلمہ سے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ [اصابۃ الرحمۃ]

عکرمہ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ تلاوت کے لیے بیٹھتے اور قرآن کھولتے تو روتے اور غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور بار بار یہ کہتے، "هذا کلامِ ربیٰ" یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ [احیاء العلوم/۱/۲۵۲]

ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں عکرمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا جب آپؐ ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپؐ مسکرانے اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں ہیں۔ [مدارج النبوت/۲/۳۹۲]

اشارة اس طرف تھا کہ عکرمہ اگر چہ فی الحال کافر ہیں لیکن عنقریب

اسلام میں داخل ہوں گے۔

## ٩: ہبّار بن الاسود

اس کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت ایذا میں پہنچاتا تھا۔ آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت نبی زوجہ ابوالعاص بن ربع جب بھرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں تو ہبّار بن الاسود نے چند اوباشوں کے ساتھ مل کر راستہ میں جاتے ہوئے حضرت نبی زوجہ کے ایک نیزہ مارا جس سے وہ ایک پتھر پر گر پڑیں حاملہ تھیں حمل ساقط ہو گیا اور اسی بیماری میں انقال فرمایا۔ *إِنَّا إِلَّا لِهِ رَاجِعُونَ*.

فتح مکہ کے دن آپ نے ہبّار کا خون مباح قرار دے دیا۔ جب آپ ﷺ بھر انہ سے واپس ہوئے تو ہبّار حاضر خدمت ہوئے اور آکر آپ ﷺ کے سامنے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ہبّار بن الاسود ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے ہبّار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ نے اشارہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہبّار بن الاسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ ”سلام عليك يانبي الله“ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی!

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وقد هربت منك في البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذكرت عائذك وصلتك وصفحك عن جهل عليك وكتنا يانبي الله اهل شرك فهدانا الله بك وانقذنا من الهمة فاصفح عن جهلى وعما كان يبلغك عنى فاني مقرب سوء فعلى معترف

بذریبی فقال رسول اللہ ﷺ قد عفوت منک وقد احسن اللہ  
الیک حیث هداک الی الاسلام والاسلام یجب ماقبلہ.

[الاصابہ ۵۹۸/۳]

”سلام عرض کر کے کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر گذارش کی یار رسول اللہ ! میں آپ ﷺ کے ڈر سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتا پھر اور ارادہ کیا کہ دوسرے ملک میں چلا جاؤں لیکن پھر مجھے آپؐ کے حسن خلق کا خیال آیا کہ کس فراغ حوصلگی سے آپؐ نے ہماری جماداتوں اور جہاتوں سے درگذرفرمایا۔ یار رسول اللہ ! ہم مشرک تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپؐ کے ذریعہ ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں تباہ و بر بادی سے بچالیا۔ التجا کرتا ہوں کہ آپؐ میری تقصیرات سے درگذرفرمائیں اور جو کچھ آپؐ نے میرے بارے میں سنائے اسے فی سبیل اللہ بھول جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا میں نے تجھے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ کتنا کرم ہے کہ تجھے قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام زمانہ جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

## ۱۰: وحشی بن حرب

رسول اللہ ﷺ نے ان کا خون مبارح فرمادیا تھا کیونکہ انہوں نے احمد کے دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور صحابہ ان کے قتل کر دالئے پر بہت مُصر تھے یہ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر طائف چلے گئے جب طائف کا وفد اسلام لانے کے لیے روانہ ہوا تو ان پر تمام راہیں تنگ ہو گئیں تو وہ بھی وہاں سے روانہ ہو کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا پھر حضرت ابو بکر

نبی ﷺ کے دورِ خلافت میں مرتدین سے جنگ کے لیے جانے والوں کے ہمراہ یہ بھی روانہ ہوئے اور اسی نیزہ سے جس سے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو قتل کر ڈالا وہ کہا کرتے تھے کہ اسی نیزہ سے خیرالناس کو قتل کیا ہے اور اسی نیزہ سے شرالناس کو واصل جہنم کیا ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ میرا یہ عمل سابق جرم کا کفارہ ہو جائے گا۔ [زرقاں ص ۲۲۲/۲]

## ۱۱: کعب بن زہیر

یہ شاعر تھے رسول اللہ ﷺ کی بھجو میں شعر کہا کرتا تھا۔ اپنے بھائی زہیر کو اس کے اسلام لانے کی وجہ سے شرم دلایا کرتا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو وہ ڈر گیا اور رسول اللہ ﷺ کی فتح مکہ کے بعد مدینہ واپسی پر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا اور آپ ﷺ کو اپنا وہ مشہور قصیدہ سنایا جس کا مطلع یہ ہے۔

بانت سعاد و قلبی الیوم متبول

میری محبوبہ سعاد مجھ سے دور چلی گئی اس لیے آج میرا دل بے قراری  
سے کٹا جا رہا ہے۔

اسی قصیدہ کا ایک شعر یہ ہے۔

ان الرسول لنور ليستضاء به مهند من سیوف الله مسلول  
” بلاشبہ رسول اکرم وہ نور ہیں جن کی روشنی سے اکتاب فیض کیا جاتا  
ہے اور آپ ﷺ کی تلواروں میں سے ایک بے نیام کھنپی ہوئی ہندی  
تلوار ہیں۔“

جب وہ قصیدہ سناتے ہوئے اس شعر پر پہنچ تور رسول اللہ ﷺ نے اپنی چادر مبارک جواہر ہے ہوئے تھے ان کی طرف پھینک دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس چادر مبارک کے عوض ابن زہیر کو دس ہزار درہم دینے چاہے انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی چادر مبارک کو جو آپ ﷺ نے مجھے عطا فرمائی کسی دوسرے کو دے کر اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ نے ان کے ورثاء کے پاس بیس ہزار درہم بھیج کر یہ چادر مبارک ان سے حاصل کی۔ یہ چادر مبارک بعد کو آنے والے سلاطین کے پاس منتقل ہوتی رہی جسے تمام خلفاء عید و جشن کے موقع پر زیب تن کیا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تاتاری حملہ میں ضائع ہو گئی۔

[اسد الغابہ / ۲۳۰]

کعب بن زہیر بڑے فاضل شعرا میں سے تھے۔ علی ہذا ان کے والد زہیر ان کے بھائی بھیر ان کے فرزند عقبہ بن کعب اور ان کے پوتے عوام بن عقبہ بھی پایے کے شعرا تھے۔

[استیغاب / ۱۳۱۵]

### ۱۲: حارث بن طاطل:

یہ شخص رسول اللہ ﷺ کی ہجو کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔

[فتح الباری: ۱۱/۸]

### ۱۳: عبد اللہ بن زیعری

یہ بڑے زبردست شاعر تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی ہجو اور نمدت میں

شعر کہا کرتے تھے۔ سعید بن مسیتب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ابن زبیر کے قتل کا حکم دیا یہ بھاگ کر نجران چلے گئے بعد میں تاب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے اور مذہرت میں اشعار کہے۔

یا رسول اللہ الملیک ان لسانی راتق ما فتقت اذا نابوا

[استیعاب ۹۰۲/۱۳]

”اے اللہ کے رسول میری زبان اس نقصان کا جبر کروے گی جو میں نے اپنی ہلاکت اور گمراہی کے زمانہ میں پہنچایا ہے۔“

آمَنَ اللَّحْمُ وَالْعِطَامُ بِرَبِّيْ ثُمَّ قَلَّبِي الشَّهِيدُ اَنْتَ النَّذِيرُ  
میرا گوشت اور میری ہڈی پر دگار پرایمان لے آئیں پھر میرا دل شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بیشرون ذیر ہیں۔

[سیرت ابن ہشام ۴/۶۱]

## ۱۴: ہمیرہ بن ابی وہب مخزوی

یہ بھی انہیں شعراء میں تھا جو آپ ﷺ کی ہجو میں شعر کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھاگ لکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔

[سیرت ابن ہشام ۴/۶۲ و اصحابہ ۴/۴۲۵]

## ۱۵: ہندہ بنت عتبہ، زوجہ ابوسفیان، والدہ امیر معاویہ

یہ وہی ہندہ ہے جس نے معز کہ احمد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کا حیہ منع کر دیا تھا اور ان کا دل نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ بھی انہیں عورتوں میں داخل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا حکم دیا تھا ہندہ رسول

اللہ ﷺ کو بہت ایذا دیتی تھی۔ ہندہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذدرت کی اور اسلام قبول کر لیا اور گھر جا کر تمام بتوں کو ٹکڑے کر دالا اور کہا اللہ کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکہ میں تھے۔

[سیرت ابن ہشام ۹۶ / ۴ و اصحابہ ۴ / ۴۲۵]

## ۱۶: ہارث بن ہشام مخزومی

یہ شخص اور اس کا بیٹا عبد الرحمن بن ہارث بن ہشام دونوں رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے میں شدید تھے۔

## ۱۷: زہیر بن امیہ

ہارث بن ہشام کی طرح اپنے کفر میں شدید تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ان دونوں کا خون مباح قرار دے دیا یہ دونوں فرار ہو کر حضرت ام ہانی بنت الی طالب، ہمیشہ حضرت علیؑ کے گھر میں جا چھپے انہوں نے انہیں پناہ دے دی پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کی پناہ کو تسلیم کر لیا تب یہ دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئیں اور یہ دونوں مشرف باسلام ہو گئے پھر ان کا اسلامی کردار مثالی اور بہترین رہا۔ [سیرت ابن ہشام ۹۳ / ۵۳]

## ۱۸: صفوان بن امیہ

یہ حالت کفر میں رسول اللہ ﷺ سے عداوت رکھنے اور آپؐ کی ایذا رسانی میں دوسروں سے بہت سخت تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کا خون مباح کر دیا تھا، یہ سن کر چھپ گئے اور ارادہ کیا کہ دریا میں کو دکر خود کشی

کر لیں تب ان کے چچازاد بھائی حضرت عیمر بن وہبؓ مجھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! صفوان اپنی قوم کے سردار ہیں اور وہ یہاں سے بھاگ کر خود کو سمندر میں ڈالنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ پس آپؓ سے درخواست ہے کہ آپؓ انہیں امان عطا فرمادیں کیونکہ آپؓ نے تو ہر سرخ و سیاہ فام کو امان عطا فرمادی ہے۔ آپؓ نے فرمایا جا کر اپنے بھائی کو تلاش کر لاؤ میں نے انہیں امان دی۔ عرض کیا کہ مجھے ایسی نشانی عطا فرمائیں جسے دیکھ کروہ آپؓ ﷺ کی امان کی تصدیق کر سکیں کیونکہ میں نے ان سے واپسی کی درخواست کی تھی لیکن انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گا جب تک کوئی ایسی نشانی نہ لاؤ گے جسے میں پہچان سکوں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنا وہ عمائد عطا فرمادیا جسے باندھے ہوئے آپؓ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اسے لے کر بھائی کے پاس عین اس وقت پہنچے جب وہ سمندر میں چہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر صفوان نے کہا مجھ سے دور رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے صفوان! تم پر میرے والدین فدا ہوں میں اس ہستی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں جو تمام بني نوع بشر میں افضل، سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی، سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے بہتر ہستی ہے اور وہ تمہارے چچازاد برادر بھی ہیں۔ ان کی عزت، تمہاری عزت، ان کا شرف تمہارا اور ان کی حکومت خود تمہاری حکومت ہے۔ کہا مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ اس سے کہیں زیادہ درگذر اور مہربانی فرمانے والے ہیں یہ کہہ کر انہیں وہ عمائد مبارک دکھایا جسے وہ لے کر آئے تھے پس وہ ان کے ساتھ واپس آگئے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یہ عیمر

بھتتے ہیں کہ آپ نے مجھے امان بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے عرض کیا مجھے اپنے معاملہ میں رائے قائم کرنے کے لیے دو ماہ کی مهلت عطا فرمادیں آپ نے فرمایا تمہیں چار ماہ کی مهلت دی جاتی ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ نے جنگ ہوازن پر جانے کا ارادہ فرمایا تو صفوان سے چالیس درہم بطور قرض طلب کئے نیزان کے پاس جتنی زر ہیں تھیں وہ طلب فرمائیں۔ انہوں نے کہا اے محمد! کیا مجھ سے یہ سبب زبردستی وصول کیا جا رہا ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ مستعار طلب کیا جا رہا ہے جو واپس کیا جائے گا یا اس کی ضمانت دی جائے گی پھر جب رسول اللہ ﷺ جنگ ہوازن پر روانہ ہوئے تو یہ بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے حالانکہ اس وقت شرک پر ہی قائم تھے۔ پھر جب آپ ہوازن کے اموال غنیمت حنین میں پہنچ کر مجاہدین میں تقسیم فرماتے تو انہیں بھی تین مرتبہ سو ساوونٹ [جملہ تین سو ساوونٹ] عطا فرمائے [پھر آپ نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ مجاہدین کو اس بات پر لچائی نظر وہ سے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اونٹوں اور بکریوں کے بھر پور عطیات ملے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہارا ہے پس صفوان نے ان لوگو کے حصہ پر قبضہ کر لیا اور بول اٹھا کہ بادشاہ کبھی ایسی فراخ دلانہ بخشش پر آمادہ نہیں ہوئے اس جیسی فراخ دلانہ بخشش نبی ہی کر سکتا ہے۔ میں کلمہ "اشهد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدار رسول اللہ" پڑھتا ہوں۔ پس وہ اسلام لے آئے اور ان کا اسلام مثالی اور بہترین رہا پھر انہوں نے وہ مدت ترک کر دی جس کی مهلت مانگی تھی۔ (ابن ہشام ۶۰/۳)

## ۱۹: ابوسفیان بن حارث

ابوسفیان بن حارثہ بن عبدالمطلب بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے خون کو فتح مکہ میں رسول اللہ ﷺ نے مباح قرار دے دیا تھا کیونکہ اس نے آپ ﷺ کی ہجوگوئی کی تھی۔ پھر تائب ہو کر آیا اور آپ ﷺ کے اعراض کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔

والقدی نے ”كتاب المغازي ۲/ ۸۰۶“ میں لکھا ہے کہ ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کا رضاعی بھائی تھا۔ حضرت حلیمه سعدیہ نے چند روز اسے دودھ پلا پایا تھا یہ رسول اللہ ﷺ کا ہم عمر تھا اور آپ ﷺ سے بہت محبت رکھتا تھا جب آپ ﷺ کو مبعوث کیا گیا تو آپ سے اس قدر عداوت کرنے لگا کہ کسی نے نہ کی ہوگی۔ یہ شعب الی طالب میں اقامت گزیں نہیں ہوا تھا۔

اس نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی ہجوگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ ابوسفیان نے کہا اب میں کس کی محبت اختیار کروں اب اسلام ہر طرف چھا گیا ہے پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آیا اور کہا باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد کا شکر آگیا ہے انہوں نے کہا اب وقت آگیا ہے کہ تم محمد کی مدد کرو سب عرب و عجم نے آپ ﷺ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اور تم اس کی عداوت میں بھاگے جا رہے ہو حالانکہ تم ان کی امداد کے بہت لاائق ہو میں نے اپنے غلام مذکور نامی سے کہا کہ میرے اونٹ اور گھوڑے جلدی سے تیار کرو۔

پھر ہم چلے یہاں تک کہ ”ابواء“ میں اترے۔ رسول اللہ ﷺ کا

ہر اول دستے ابواء میں اتر پکا تھا۔ مجھے عجیب سالگا اور میں ڈرا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے میرے خون کو ہدر قرار دے دیا تھا چنانچہ میں اور میرا بیٹا جعفر صبح کے وقت ایک میل چل کر وہاں پہنچے جہاں آپ ﷺ کی قیام گاہ تھی۔ لوگ تھوڑی تھوڑی جماعتوں کی صورت میں آئے میں صحابہ کے ڈر سے [باقی لوگوں سے] الگ تھلگ رہا۔ جب آپؐ اپنے لشکر میں نمودار ہوئے تو میں آپؐ کے چہرے کی طرف سے سامنے آیا آپؐ نے بھرپور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آپؐ کے سامنے آیا مگر آپؐ نے کئی دفعہ مجھ سے اعراض فرمایا۔

میرے ذہن پر دور و نزدیک کے کئی خیالات ابھرے میں نے کہا مجھے آپؐ کے پاس پہنچنے سے قبل ہی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر مجھے آپؐ ﷺ کا لطف و کرم اور قرابت داری کا خیال آیا تو یہ وہم کافور ہو گیا۔ مجھے اس امر کا یقین تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ میرے اسلام پر مسرت کا اظہار کریں گے اس لیے کہ وہ میری قرابت داری سے آگاہ تھے پہنچنے سے مسلمانوں نے مجھ سے انحراف کیا۔ اندر میں اتنا بکر مجھے ملے اور مجھ سے منہ موڑ لیا میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ میرے خلاف ایک انصاری کو بھڑکا رہے ہیں۔

ایک آدمی مجھ سے چمٹ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے دشمن! تو ہی وہ شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ اور آپؐ ﷺ کے صحابہؓ ایذا دیا کرتا تھا۔ آپؐ ﷺ کی عداوت میں تو مشرق و مغرب کی انہا کو پہنچ گیا تھا میں نے کسی حد تک اپنا دفاع کیا اس نے میرے ساتھ دست درازی کی اور مجھے آدمیوں کے

گھیرے میں لے گیا جو میرے ساتھ ہونے والے سلوک سے خوش ہو رہے تھے۔ ابوسفیان کہتے ہیں پھر میں آپؐ کے چچا عباسؓ کے پاس گیا میں نے کہا اے عباس مجھے امید تھی کہ رسول کریم ﷺ میری قرابت داری اور میری عظمت و شرف کی وجہ سے میرے اسلام لانے سے خوش ہوں گے مگر اس کا حشر آپؐ نے ذکر یا لیا ہذا آپؐ رسول کریم ﷺ سے بات کر کے انہیں راضی کیجئے حضرت عباسؓ نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں ہرگز ان سے ایک کلمہ بھی نہ کہوں گا۔ میں نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ کیا یا۔ الایہ کہ مجھے کوئی صورت نظر آئے۔ میں رسول اللہ ﷺ کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپؐ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا چچا جان! آپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ عباسؓ نے کہا بس یہی ہے۔

پھر میں نے حضرت ﷺ سے مل کر یہی ماجرا بیان کیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ پھر میں نکل کر رسول کریم ﷺ کی جائے قیام کے پاس بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ مجھے جانے لگے آپؐ اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ پھر میں آپؐ جہاں پڑا تو کرتے ہیں اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا میرے ساتھ میرا بیٹا جعفر کھڑا تھا جو نبی آپؐ مجھے دیکھتے تو منہ موڑ لیتے یہاں تک کہ میں آپؐ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوا میں آپؐ کے لشکر میں موجود تھا حتیٰ کہ آپؐ اذخر نامی جگہ سے اتر کر وادی انطہ میں پہنچ پھر آپؐ نے مجھے ایسی نگاہ سے دیکھا جو پہلے سے بہت زرم تھی جس سے

مجھے امید تھی کہ آپ مسکرائیں گے۔ بنو عبدالمطلب کی خواتین آپ کے یہاں آئیں ان میں میری بیوی بھی تھی اس نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو میرے بارے میں زرم کیا۔ پھر آپ مسجد کی طرف گئے اور میں آپ کے آگے آگے تھا اور کسی حالت میں آپ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ ہوازن کی طرف گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا پھر ہوازن کا واقعہ ذکر کیا جو کہ مشہور ہے۔

والقدی کہتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان کے اسلام لانے کا واقعہ ایک اور طریقہ سے بھی سنائے۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ سے ثنیہ العقاب میں ملا آگے اسی طرح ذکر ہے جس طرح ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوسفیان بن حارث اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ رسول کریم ﷺ سے ثنیہ العقاب میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ملے۔ اور داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ حضرت ام سلمہؓ نے دونوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ابوسفیان آپ کے چچا اور پھوپھی کا بیٹا اور آپ کا خسر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ میرے چچازادے تو میری بے عزتی کی باقی رہا میرا پھوپھی زاد اور خستہ تو اس نے مجھے مکہ میں کہا جو کچھ کہا۔

جب دونوں تک یہ خبر پہنچی اور ابوسفیان ہمراہ اس کا بیٹا بھی تھا اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں گے یا میں اپنے بیٹے کا دامن تحام کر جدھر

چاہیں گے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہم بھوک پیاس سے مر جائیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی تو دونوں کے لیے آپؐ کا دل نرم ہو گیا۔ دونوں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابوسفیان نے اپنے اسلام لانے اور سابقہ خطاؤں سے مغفرت پرمنی اشعار آپؐ ﷺ کو سنائے۔

واقدی کی روایت میں ہے کہ دونوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ مگر آپؐ نے شرف باریابی بخشش سے انکار کر دیا آپؐ ﷺ کی بیوی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! ابوسفیان آپؐ ﷺ کا خسر چھازاد، پھوپھی زاد اور رضاعی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسلمان کر کے آپؐ ﷺ کے پاس لاایا ہے آپؐ ﷺ اسے فیوض برکات سے محروم نہ رکھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے اس نے تو مجھے مکہ میں کہا جو کچھ کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا یہاں تک کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! وہ آپؐ ﷺ کی قوم کا ایک فرد ہے آپؐ ﷺ تمام قریش سے بولتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے۔ آپؐ نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے جو اس سے بڑے مجرم تھے۔ ابوسفیان آپؐ ﷺ کا چھازاد ہے اور آپؐ ﷺ کا اس کے ساتھ قربی رشتہ ہے آپؐ ﷺ اس کے ساتھ معاف کرنے کے بہت حقدار ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ لہذا مجھے ان کی کچھ ضرورت نہیں۔

جب دونوں کو اس کا پتہ چلا تو ابوسفیان نے کہا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا یا تو میری بات نہیں گے یا میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر نکل جاؤں گا اور چلتے چلتے بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اور آپ سب لوگوں سے زیادہ حليم اور کریم تر ہیں اور آپ میرے رشتہ دار بھی ہیں جب رسول اللہ ﷺ کو اس کے الفاظ کا پتہ چلا تو آپ ﷺ کا دل نرم ہو گیا۔ عبد اللہ بن امیہ نے کہا میں آپ ﷺ کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ آپ کی خسر [ابوسفیان] کی طرح میں بھی آپ ﷺ کا رشتہ دار ہوں۔ حضرت ام سلمہ بے دونوں کے بارے میں گفتگو کرتی تھیں چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا دل دونوں پر نرم ہو گیا۔ اور آپ ﷺ نے شرف باریابی بخشا۔ دونوں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ثابت ہوا۔

عبد اللہ بن ابی امیہ طائف میں مقتول ہوئے ابوسفیان مدینہ میں خلافت فاروقی میں وفات پائی اور کسی ضمن میں اس پر کوئی عیب گیری نہ کی گئی ملاقات سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان کے خون کو ہدقرار دے دیا تھا۔

[الصراحت المسنون ص ۱۳۵]

## واقعہ ابی سفیان سے استدلال

ابوسفیان کے واقعہ سے اس طرح احتجاج کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے بڑے بڑے زوسماء کو چھوڑ کر صرف ابوسفیان کے خون کو ہدقرار دیا تھا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے جہاد بالید والمال کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے مکہ تشریف لائے تھے۔ اور اہلیانِ مکہ

کی خون ریزی آپ ﷺ کا مطلوب و مقصود نہ تھا۔ بلکہ آپ ﷺ نزی سے ان کی دعوتِ اسلام دیتے تھے۔ ابوسفیان میں پایا جانے والا شخص سببِ بھجوگوئی کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ پھر وہ اسلام لانے کے لیے آیا مگر آپ اعراض فرماتے رہے حالانکہ آپ دوسرے لوگوں کے اسلام کے لیے تالیف قلب فرماتے تھے۔ پھر قریشی راشتہ داروں کی دلجوئی تو اور بھی ضروری ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابوسفیان آپ کی تحقیر و تنقیص کرتا تھا جیسا کہ حدیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔

### نضر بن حارث و عقبہ بن ابی معیط

ان میں سے ایک کا واقعہ یہ ہے کہ آپ جب بدر سے مدینہ لوٹنے تو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا بدر کے قیدیوں میں سے اور کسی کو قتل نہیں کیا۔ ان دونوں کا واقعہ معروف ہے۔

ابن اسحاق رقم طراز ہیں:

قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ الصفراء کے مقام پر پہنچے تو حضرت علیؓ نے نضر بن حارث کو قتل کر دیا۔ پھر آپ سفر پر روانہ ہو گئے جب عرق الظبیہ کے مقام پر پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا اس کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا تھا۔

وقدی نے ”کتاب المغازی ۱/۱۱۲“ میں لکھا ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ قیدیوں کو لے کر جب عرق الظبیہ نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الاشعی کو حکم دیا کہ عقبہ کی گردن اڑادے۔ عقبہ نے کہنا شروع کیا۔ ہائے افسوس اے قریش! سب لوگوں میں

سے مجھے ہی کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے تھے اس نے کہا اے محمد! تمہارا احسان کرنا بہت اچھا ہے مجھے میری قوم کا ایک فرد تصور کیجئے اگر آپ انہیں قتل کریں تو مجھے بھی قتل کر دیں اگر ان پر احسان کریں تو مجھ پر بھی احسان کریں اگر ان سے فدیہ لیں تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ اے محمد! بچوں کی حفاظت کون کرے گا۔ آپ نے فرمایا جہنم! اے عاصم اسے آگے کرو اور اس کی گردن اڑا دو۔ عاصم نے اسے آگے بڑھایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو بہت برا آدمی تھا۔ بخدا میں نے اللہ اس کی کتاب اور اس کے رسول کا انکار کرتے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اس کے نبی کو ایذاء دیتا ہو۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے تجھے قتل کر کے میری آنکھیں مٹھنڈی کیں۔

## وجہ استدلال

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

یہ بیان اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ تمام قیدیوں میں سے ان دو آدمیوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے قول فعل سے اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے تھے۔ جو آیات نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئیں وہ معروف ہیں اسی طرح عقیم اپنی زبان اور ہاتھوں سے ایذاء دیا کرتا تھا وہ معروف ہے۔ اس شخص نے رسول اللہ ﷺ [میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں] کا گلا اپنی چادر سے پورے زور سے دبایا یہ آپ ﷺ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ سجدہ کی حالت میں تھے تو اس نے آپ کی پشت

مبارک پر اونٹ کا او جھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ [الصادر المسنون ص ۱۳۲]

## ابوعزٰہ عمر وحی شاعر کی گستاخی اور انجام

جنگ بدر کی کے بعض قیدیوں کو رسول اللہ ﷺ نے احسان کرتے ہوئے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ انہی میں ابو عزٰہ عمر وحی شاعر بھی تھا یہ اپنے اشعار سے رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے صحابہ عَنْهُمْ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا کہ آپؐ کو معلوم ہے میں صاحب عیال اور مفلس ہوں پس مجھ پر احسان فرمائیں چنانچہ ازراہ کرم آپؐ نے اسے رہا فرمادیا اور اس سے عہد لیا کہ آئندہ آپؐ کے مقابلہ پر کسی کو آمادہ نہ کرے گا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ میں نے محمد ﷺ پر جادو کر دیا اور حسب سابق اپنے اشعار سے آپؐ ﷺ کو قلبی اذیت پہنچانے لگا۔ جب احمد کا معرکہ پیش آیا تو یہ مشرکوں کے ساتھ ہو کر میدان میں آیا اور اپنے اشعار سے کفار کو مسلمانوں کے قتل پر بھڑکانے لگا اس جنگ میں وہ گرفتار ہو کر پیش خدمت ہوا تو آپؐ نے اس کی گرون اڑا دینے کا حکم فرمایا اس نے کہا مجھے آزاد کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے میں اب کے پھر توبہ کرتا ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موسن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈساجاتا۔ پس اس کی گرون اڑا دی گئی اور اس کا کٹا ہوا سرمدینہ لا یا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیات نازل فرمائی:

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ فَأَمْكَنَّ مِنْهُمْ﴾

[الانفال: ۷۱]

”اگر انہوں نے آپؐ سے بد عہدی کی ہے تو یہ اس سے پہلے اللہ سے بھی بد عہدی کر چکے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے آپؐ ﷺ کو ان پر

غلبہ عطا فرمایا۔“ [مسیرۃ الدعویہ لابن کثیر ۱۰۲/۳]

## گستاخ رسول ابو جہل ملعون کا انجام

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ اچانک مجھے دو انصاری نوجوان نظر آئے میری آرزو تھی کہ دونوں میں سے جو طاقتور ہے میں اس کے پاس ٹھہروں۔ دونوں میں سے ایک نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا پچا! کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا اور پوچھا پہنچیجے! تمہیں اس سے کیا سروکار؟ لڑکے نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ کو گالیاں دیتا ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ جس کی تقدیر پہلے آئی ہے مر جائے۔

حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس پر برا حیران ہوا پھر دوسرے لڑکے نے اشارہ کر کے اسی قسم کی بات کہی جلدی ہی میں نے ابو جہل کو لوگوں میں گھومنے دیکھا میں دونوں سے کہا کیا تم اسے دیکھتے نہیں؟ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دونوں تکواریں لے کر جھپٹ پڑے اور اسے مارڈا لا پھر آ کر رسول کریم کو اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں میں سے رایک نے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی اپنی اروں کو پونچھ لیا ہے؟ دونوں نے کہا نہیں؟ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے

دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل کا سامان معاذ بن عرو بن الجموج کو دے دیا۔ ان کا نام معاذ بن عرو بن الجموج اور معاذ بن عفراء تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا ابو جہل کے قتل سے خوش ہونے اور سجدہ شکر بجالانے کا واقعہ مشہور ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

هذا فرعون هذه الامة.

”یہ اس امت کا فرعون ہے۔“

مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کے قاتل معاذ بن عرو بن الجموج اور معاذ بن عفراء ہیں لیکن بخاری کی روایت جو غزوہ بدر کے بیان میں مذکور ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل معاذ اور معوذ عفراء کے بیٹے ہیں۔

حافظ ابن حجر العسقلیہ فرماتے ہیں کہ عفراء کے بیٹوں کے ساتھ معاذ بن عرو بن الجموج بھی شریک قتل تھے۔ بلکہ معاذ بن عرو بن الجموج ہی نے قتل میں زیادہ حصہ لیا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے سلب ”معاذ بن عرو“ کو ہی دلوایا۔

[کذانی فتح الباری ۷/۲۰۳، غزوہ بدر و روز قرانی ۱/۳۸۸]

حضرت عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم، معاذ بن عرو بن الجموج سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو جہل کی تاک میں تھا جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کاوار کیا کہ ابو جہل کی تاگ کٹ گئی۔

ابو جہل کے بیٹے عکرمه نے [جو فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے] باپ کی حمایت میں معاذ کے شانہ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ لیکن تمہارا لگا رہا۔ ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا مگر سبحان اللہ معاذ شام تک اسی حالت

میں لڑتے رہے، جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تمہے علیحدہ ہو گیا حضرت عثمان کے زبانہ خلافت تک زندہ رہے مگر معوذ بن عفراء ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا اَنَا لِلّٰهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

### ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ گالی دہندہ کو قتل کرنا سنت رسول کا حصی تقاضا یہ ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مدینہ میں جن گستاخانِ رسول کا خون مبارح کیا تھا ان میں سے اکثر ویشرتر کو معافی مل گئی اور وہ مسلمان ہو گئے اور جن کو قتل کیا گیا ان کی تعداد صرف چند تھی اگر گالی دہندہ اور گستاخی کرنے والے کا قتل ضروری ہے تو ان لوگوں کو معافی کیسے مل گئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں وہ اپنی حیات میں کسی کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن آپؐ کے بعد امت کو یہ حق حاصل نہیں کہ گالی دہندہ اور گستاخ رسول کو معاف کر دے اور وہ کسی فرد یا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے مجرم کو معافی دے دے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ان النبی ﷺ کان له ان یعفو عنمن شتمه و سبه فی  
حیاته وليس للامة ان یعفو عن ذلك.

”رسول اللہ ﷺ اس شخص کو معاف کر سکتے تھے جو آپؐ کی زندگی میں آپؐ کو گالی دیتا مگر آپؐ کی امت اس امر کی مجاز نہیں ہے۔“

### کفار کی رسول اللہ ﷺ کو ایذا اور سانی

قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جا رہی ہے اور حکم کھلا بست پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے اور جو ایک اللہ کی طرف بلارہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور یہ تہبیہ کر لیا کہ آپؐ ﷺ کو اس قدر تکلیف و ایذا پہنچائی جائے کہ آپؐ دعوت اسلام سے بازا آ جائیں۔

ا:- مفیب غامدی رض سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ لوگوں کو یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو! لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُو فلاح پاؤ گے۔ مگر بعض بد نصیب تو آپؐ ﷺ کو گالیاں دیتے تھے اور آپؐ ﷺ پر تھوکتے اور بعض اس پر ﷺ پر خاک ڈالتے۔ آپؐ ﷺ کا جینا اور اسلام کا اعلان دو بھر ہو گیا۔ اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپؐ ﷺ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھوایا میں نے دریافت کیا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ آپؐ ﷺ کی صاحبزادی نہیں ہے۔ [معجم للطبرانی ۳۲۲/۲۰]

بخاری نے اس حدیث کو مختصر اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے یہ حدیث حارث بن حارث غامدی سے بھی مردی ہے اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ آپؐ ﷺ نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اے بیٹی تو اپنے باپ

کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔

[رواہ البخاری فی تاریخہ ۱۴/۴ و الطبرانی وابونعیم]

ابوزرعہ مشقی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ [کنز الاعمال ۳۰۲/۶]

۲:- طارق بن عبد اللہ الحاربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بازارذی الجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو فلاج پاؤ گے اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پھر مارتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلو دھو گیا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا۔ یا ایہا الناس لاتطیعوه فانہ کذاب ”اے لوگو! اس کی بات نہ سننایہ جھوٹا ہے۔

[طبرانی کبیر ۸/۳۷۶، رواہ ابن ابی شیبہ۔ کنز الاعمال ۳۰۲/۶]

۳:- بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو بازارذی الجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو فلاج پاؤ گے اور ابو جہل آپ پر مٹی پھیکتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو تم اس کے دھوکہ میں نہ آنا یہ تم کو لات اور عزی سے چھڑانا چاہتا ہے اور رسول اللہ ﷺ اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ [مسند احمد ۲/۲۳]

۴:- عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو جو تکلیف پہنچائی ہوا س کا ذکر کرو تو عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ حظیم میں نماز ادا فرمائے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ ﷺ کی گردان میں کپڑا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا سامنے سے ابو بکر آگئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی:

﴿أَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾۔ [المؤمن: ۲۸]

”کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب پرور گار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت و سالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔“

[البحاری: ۱۳۴۵/۳]

فرعون اور ہامان نے جب حضرت موسیؑ کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مخفی طور پر حضرت موسیؑ پر ایمان رکھتا تھا یہ کہا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اس قصہ کا سورہ مومن میں ذکر فرمایا ہے۔

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾۔ [سورہ المؤمن: ۲۸]

”کہا ایک مرد مسلمان نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپا تا تھا کہ تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کئے ڈالتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔“

منند بزار اور دلائل ابی قیم میں محمد بن علیؑ سے مردی ہے کہ ایک روز علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں پوچھا بتلا و سب نے زیادہ شجاع اور بہادر کوں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ حضرت علیؑ نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا سب سے زیادہ شجاع ابو بکر تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ ﷺ کو مارتے جاتے ہیں اور کہتے

جاتے ہیں۔

**أَنْتَ جَعَلْتَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا.**

”تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔“

ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ ﷺ کے قریب جاتے اور آپ ﷺ کو دشمنوں سے چھڑاتے۔ حسن اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے۔ ایک مکہ اس کے ایک، ایک گھونسہ اس کے رسید کیا اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور ہامان کو کہا تھا۔ آتَيْتُكُمْ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ . الآیۃ اسی طرح ابو بکر نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کہا۔ وَيَلَّكُمْ آتَيْتُكُمْ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ . افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہیہ کہہ کر روپڑے اور یہ فرمایا تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ الی فرعون میں کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لوگ خاموش رہے پھر فرمایا خدا کی قسم! ابو بکر کی ایک گھڑی الی فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔

[فتح الباری ۱۲۹/۷ باب مالقی النبی ﷺ واصحابہ من المشرکین مکہ]

نیز اس شخص نے زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے بھی رسول اللہ ﷺ کی نصرت و حمایت کی۔

۵:- عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے

خلق افعال العباد میں اور ابو یعلیٰ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

والذی نفسی بیده ما رسلت الیکم الا بالذبح.

”قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جیسوں  
کے ذرع کے لیے بھیجا گیا ہوں۔“

[فتح الباری باب مالقی النبی ﷺ واصحابہ من المشرکین مکہ]

اور دلائل ابی نعیم اور دلائل یہیقی اور سیرۃ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کے یہ فرماتے ہی کفار پر سکنے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سڑکوں تھا۔ [الخصائص الکبریٰ / ۱۳۲] اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔

۶۔ مند ابی یعلیٰ اور مند بزار میں حضرت انس دی اللہ عزیز سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ ﷺ کو اس قدر مارا کہ آپ ﷺ بیہوش ہو گئے۔ ابو بکر حمایت کے لیے آئے تو آپ ﷺ کو چھوڑ کر ابو بکر کو لپٹ گئے۔ مند ابی یعلیٰ میں بسانا حسن حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے مروی ہے کہ ابو بکر کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ ابو بکر زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ [فتح الباری / ۱۲۹]

۷۔ حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم ﷺ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا آپ ﷺ طواف فرمائے تھے اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل اور امیہ بن خلف حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ ﷺ ان کے سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ ﷺ کو

سنا کر کہے۔ آپ ﷺ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ ﷺ تیسری بار گزرے پھر اسی قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور شہر گئے اور یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو آپؐ یہ فرمائی کہ گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپؐ کے پیچھے ہو لئے اس وقت آپؐ نے ہم سے یہ فرمایا:

ابشروا فان الله مظہر دینه و متم کلمته و ناصر دینه ان  
هؤلاء الذين ترون من يذبح بایدیکم عاجلا فوالله

لقد رأيتم ذبحهم الله بایدینا۔ [دارقطنی وعيون الآخر ۱/۴۰]   
”بشرارت ہوتم کو اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمہ کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو عنقریب ان کو اللہ تھمارے ہاتھوں ذبح کرائے گا۔“

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔

یہ روایت دلائل ابی نعیم میں بھی مذکور ہے، اور مختصر فتح الباری ۷/۲۸ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کی او جھ اٹھالائے۔ تاکہ محمد ﷺ

جب سجدے میں جائے تو وہ اوجھ آپ ﷺ کی پشت پر رکھ دے۔ اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شقی تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور ایک اوجھ اٹھا کر آپ ﷺ کی پشت پر ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا اور مشرکین ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں اتنے میں حضرت فاطمۃ الزہراءؑ جو اس وقت چار پانچ سال کی تھیں دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے اوجھ کو ہٹایا آپ ﷺ نے سجدہ سے سراخایا اور قریش کے لیے تین بار بددعا کی۔ قریش کو آپ ﷺ کی بددعا بہت شاق گذری اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر ابو جہل اور عقبہ بن ربيعہ اور شیبہ بن ربيعہ اور ولید بن عقبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمارة بن الولید کے لیے نام بنام بددعا کی جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے بخاری کتاب الطہارۃ و کتاب الصلوۃ کی ایک روایت میں ہے کہ کپڑوں کی طہارت کا حکم یعنی ”وَنِيَاكَ فَطَهِرْ“ یہ آیت اسی واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔

[معجم البخاری ۵۲۱/۸]

حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں میرے دروازے پر نجاتیں لا کر ڈال کرتے تھے۔

[زرقاوی ۱/۵۲۱ و فتح الباری ۱/۳۰۲]

ہجرت سے قبل کمی دور میں کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام

کوستا نے اور ایذا میں دینے میں انہا کر دی تھی۔ مگر مسلمان اس وقت کمزور تھے اور مظلومی کی حالت میں تھے اس لیے انتقام نہ لے سکے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان گستاخان رسول سے انتقام لیا اور ان کو ذلت کی موت سے واصل جہنم کیا۔

## جن گستاخانِ رسالت ﷺ سے مسلمان انتقام نہ لے سکیں ان کے بارے میں اللہ کی سنت

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں اور اہل ایمان انہیں سزا دینے پر قادر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنے رسول کا انتقام خود لے لیتے ہیں۔ اور اپنے رسول کی مدد فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

**﴿فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ  
الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾**

[الحجر: ۹۴-۹۵]

”پس اے نبی! جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو سناؤ اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔“

ان مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا ان کا واقعہ معروف ہے۔ جس کو علماء سیرت اور مفسرین نے ذکر کیا ہے اور جیسا کہ کہا گیا ہے یہ قریش کے چند سردار تھے جن کا واقعہ تفصیل آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

## قیصر و کسری کے نام دعوتِ اسلام کے خطوط

رسول اللہ ﷺ نے قیصر و کسری کو بھی [دعوت اسلام پر مشتمل] خطوط تحریر کئے تھے مگر دونوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ قیصر نے رسول کریم ﷺ اور ان کے خط کو احترام کی نگاہ سے دیکھا اس لیے اس کی سلطنت قائم رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خاندان میں ابھی تک حکومت و سلطنت باقی ہے۔ بخلاف ازیں کسری نے رسول کریم ﷺ کے خط کو چاک کر دیا اور رسول کریم ﷺ کا مذاق اڑایا اس لیے بہت جلد اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دیا اور اس کے خاندان میں حکومت باقی نہ رہی۔ [الصارم المسول ص ۱۶۱]

اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔

﴿إِنَّ شَانِئَكُ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾۔ [الکوثر: ۳]

”بے شک تیرادشمند ہی خیر و برکت سے محروم ہے۔“

جو شخص بھی رسول کریم ﷺ سے بعض وعداوت اور عنادر کئے گا۔ اللہ رب العزت اس کی جڑ کاٹ دے گا اور اس کا نام و نشان مٹا دے گا، عربی میں مثل مشہور ہے کہ:

لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ۔

”علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔“

تو پھر انبیاء ﷺ کا گوشت کیسا ہو گا۔ حدیث قدسی میں ہے آپ

ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ۔ [الصارم المسول ص ۱۶۱]

”جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔“

تو پھر اس شخص کی کیا حالت ہو گی جو انبیاء ﷺ سے دشمنی رکھے جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے اس سے جنگ کی جاتی ہے۔ انبیاء ﷺ کے جو واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی امتیوں نے جب انبیاء ﷺ کو ایذا ادی اور قول عمل سے ان کی مخالفت کی تو ان کو ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ذلیل کیا گیا وہ غضب الہی سے دوچار ہوئے اور ان کا کوئی مدد گارنہ تھا اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا جب کہ وہ کافر بھی تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

آپ کسی ایسے شخص کو نہ پائیں گے جس نے کسی نبی کو ایذا ادی ہوا اور پھر توبہ نہ کی تو اس پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی جس میں بنتلا ہو کروہ ہلاک ہوا اسی طرح جب کفار رسول کریم ﷺ کو گالیاں دینے لگتے ہیں تو ان سے جلد انقام لیا جاتا ہے۔

### و شہزادِ خاص

اعلانِ توحید اور اعلانِ دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ ﷺ کے دشمن ہو چکے تھے۔ مگر جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی دشمنی اور عداوت میں انہا کو پہنچے ہوئے تھے ان کے نام حسب ذیل ہیں:

- ۱:- ابو جہل بن ہشام
- ۲:- ابو لهب بن عبد المطلب
- ۳:- اسود بن عبد یغوث
- ۴:- حارث بن قیس

- ۵:- ولید بن مغیرہ
- ۶:- ابی بن خلف [یعنی پسر ان خلف]
- ۷:- ابو قیس بن الفاکرہ
- ۸:- عاص بن واٹل
- ۹:- نضر بن الحارث
- ۱۰:- منتبہ بن الحجاج
- ۱۱:- زیر بن امیہ
- ۱۲:- سائب بن صفیٰ
- ۱۳:- اسود بن عبد الاسد
- ۱۴:- عاص بن سعید
- ۱۵:- عاص بن ہاشم
- ۱۶:- ابن الاصراء
- ۱۷:- حکیم بن العاص
- ۱۸:- عدی بن حمراء
- ۱۹:-
- ۲۰:-

ان میں اسے اکثر ویژت آپ ﷺ کے ہمسایہ تھے اور صاحب عزت ووجہت تھے آپ ﷺ کی دشمنی میں سرگرم تھے۔ لیل و نہار یہی مشغله اور یہی دھن تھی ابو جہل اور ابو لهب اور عقبہ بن ابی معیط یہ تین شخص سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ان دشمنوں کو ذلیل و رساکیا اور ان کی موت کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔

اب دشمنانِ خاص کا کچھ مختصر حال ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

### ۱:- ابو جہل بن ہشام

آپ ﷺ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ ﷺ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دیقانہ نہ اٹھا کر کھاتھا۔ اس نے مرتبے وقت جو پیام دیا ہے اس

سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔  
ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا۔

[کعافی فتح الباری باب ذکر النبی ﷺ من بقتل بدر]

ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میرا نام عزیز کریم ہے یعنی عزت والا اور سردار  
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿إِنَّ شَجَرَةَ الرِّزْقِ مِنْ طَعَامِ الْأَنْثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي  
الْبَطُونِ ۝ كَغَلْبِيِ الْحَمِيمِ ۝ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ  
الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝ ذُقُّ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾۔

[الدخان: ۴۳ تا ۵۰]

”زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہو گا۔ تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ  
میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہو اپنی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو  
اسے اور گھٹیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے نیچ و نیچ، انڈیل دواس  
کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔“

## ابو جہل کا قتل

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صرف  
میں کھڑا تھا اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا ہوں کہ میرے دامیں باہمیں دو  
انصار کے دونوں جوان ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ آکر مجھ کو دوڑکوں کے  
درمیان کھڑا دیکھ کرنہ گھیر لیں۔

اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا اے چچا! مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے؟ میں نے کہا اے میرے بھتیجے! ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ نوجوان نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ ﷺ کو سب وشم کرتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سایہ سے جدانہ ہو گا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے۔

ان کی یہ گفتگوں کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دولڑکوں کے دوسروں کے مابین ہوتا میں نے اشارہ سے ابو جہل کا بتایا سنتے ہی شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پر دولڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔

[بخاری کتاب الجناد باب من لم يخمس الاسلاط وبخاری حملہ دوم باب غزوہ بدرا]

یہ دونوں عفراء کے بیٹے معاذ<sup>ؑ</sup> اور معوذ<sup>ؑ</sup> تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم، معاذ بن عمر و بن الجموج راوی ہیں کہ میں ابو جہل کی تاک میں تھا جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ناگہ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے [جو فتح مکہ میں مشرف بالسلام ہوئے] باپ کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے شانہ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ لیکن تسمہ لگا رہا۔ ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا مگر سجنان اللہ معاذ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے، جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کر وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے مگر معوذ بن عفراؓ ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.

### ابو جہل کی لاش کی تلاش

ابو جہل اگرچہ زخمی ہو چکا تھا لیکن زندگی کی رقم ابھی تک باقی تھی۔ حضرت انسؓ سے مروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی ابو جہل کی خبر لائے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رقم باقی ہے۔

یہ بخاری کی روایت ہے ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ابو جہل کی گردان پر پاؤں رکھ کر یہ کہا:

اخزاك الله يا عدو الله.

ذليل اور رسوا کیا تجھ کو اللہ نے اے اللہ کے دشمن۔

اور بعد ازاں اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ ﷺ کے قدموں پر لا کر ڈال دیا اور عرض کیا:

هذا رأس عدو الله ابی جهل.  
یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

الله الذى لا اله الا هو.

قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا یہ ابو جہل ہی کا

سر ہے؟  
میں نے عرض کیا:

نعم والله الذي لا إله إلا هر.  
ہاں قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبد نہیں یہ ابو جہل ہی کا  
سر ہے۔

آپ ﷺ نے اللہ کا شکر کیا اور تین مرتبہ زبان مبارک سے یہ فرمایا:  
الحمد لله الذي اعز الاسلام و اهله.

[فتح الباری / ۲۳۰]

تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے اسلام کو اور اہل  
اسلام کی عزت بخشی۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے سجدہ شکر بھی ادا فرمایا۔

[عameda الفاردي باب قتل ابي جهل]

اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے [اس شکر] میں ایک  
دو گانہ پڑھا۔

[البداية والنهاية / ۳/ ۲۸۹]

ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں  
ابو جہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا ابو جہل نے آنکھیں کھولیں اور کہا اے بکریوں  
کے چرانے والے تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے میں نے کہا:  
الحمد لله الذي مکثني من ذلك.

حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو یہ قدرت دی۔

پھر کہا کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے۔ میں نے کہا تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا اچھا یہ  
میری توار ہے اس سے میرا سر کاٹنا یہ بہت تیز ہے تیری مراد اور مدعایکو جلد  
پورا کرے گی اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی  
نظر وہ میں مہبیب ہبیت ناک معلوم ہو۔

اور جب محمد ﷺ کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ  
میرے دل میں بہ نسبت گذشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت اور بعض کہیں  
زیادہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے اس کا سر قلم کر کے  
اور اس کا سر لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ  
یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے اور اس کا پیام پہنچایا آپ ﷺ نے اللہ اکبر کہا  
اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا۔ جس کا شر اور فتنہ موئی ﷺ کے  
فرعون کے شر اور فتنہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ موئی ﷺ کے فرعون نے تو مرتبے  
وقت ایمان کا کلمہ پڑھا مگر اس امت کے فرعون نے مرتبے وقت بھی کفر اور تکبر  
ہی کے کلمات کہے اور ابو جہل کی توار آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو  
عطافرمائی۔

جس طرح رسول اللہ ﷺ فضائل و مکالات میں تمام انبیاء و مرسیین  
[صلوات اللہ علیہم اجمعین] سے افضل و برتر تھے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی  
امت کا فرعون تمام امم کے فرعون سے کفر اور شقاوتوں میں بڑھ کر تھا مرتبے  
وقت بھی اس کی آنکھ نہ کھلی اور سکرات موت نے بھی اس کے کفر اور تکبر کو متزلزل  
نہ کیا بلکہ کفر اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔

[اعاذنا اللہ تعالیٰ من ذلك أمن]

## ۲:- ابوالہب

سب سے بڑا گتاخت اور موذی رسول ﷺ آپؐ کا چچا ابوالہب ملعون تھا۔ جب اس نے آپؐ کو ایذا دی اور بنوہاشم کی مدد نکی تو اس کی لعنت پر مشتمل قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہوئی اور نام لے کر اس کو عید سنائی گئی۔ یہ ایسی رسوائی ہے جس سے دیگر کفار دوچار نہیں ہوئے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوالہب اپنی قوم کے کفار میں سے تھا جب ہمارے خلاف قریش متعدد ہو گئے تو ہم سے الگ ہو گیا اور ہمارے اعداء کی پشت پناہی کرنے لگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام لے کر مذمت کی چنانچہ ملاحظہ ہو۔

﴿تَبَّتْ يَدَا أَيْيِ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلُى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَأَمْرَأَةٌ حَمَالَةُ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾۔ [سورہ لہب]

ٹوٹ گئے ابوالہب کے ہاتھ اور نامراہ ہو گیا وہ اس کامال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور [اس کے ساتھ] اس کی جور و بھی لگائی بھائی کرنے والی۔ اس کی گردان میں منجھ کی رسی ہو گی۔

یہ سورہ لہب کی ہے لیکن ٹھیک ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ کمی دور کے کسی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابوالہب کا جو کردار رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کی دعوت حق کے خلاف تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا

جاسکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ نبی مکرم ﷺ کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعد نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور تھا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے اس قیاس کی بنایہ ہے کہ ابو لہب رسول اللہ ﷺ کا چچا تھا اور بھتیجی کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گذری ہوئی زیادتیاں علانية سب کے سامنے نہ آگئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتداء ہی میں سورہ نازل کردی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔

### پس منظر

قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنانِ اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے حالانکہ مکہ میں اور بھرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور حضرت محمد ﷺ کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنابر اس کا نام لے کر مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔

قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدمنی غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی اور صدیوں سے یہ حالت تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صدر حجی [یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک] کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور قطع حجی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ ﷺ جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان سرداروں نے تو رسول اللہ ﷺ کی شدید مخالفت کی مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب [ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد] نے نہ صرف یہ کہ آپؐ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ حکلم کھلا آپؐ کی حمایت کرتے رہے حالانکہ اس میں سے اکثر لوگ آپؐ ﷺ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی رسول اللہ ﷺ کے ان خونی راشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بنو ہاشم اور بنی المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے آبائی دین سے مخلف ہو گئے ہو وہ اس بات کے جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے اور ان کا اپنے عزیز کی پشت پناہی کرنا قریش اور اہل عرب شب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔

اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑا لा اور وہ تھا ابو

لہب بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ ﷺ کا چچا تھا رسول اللہ ﷺ کے والد ماجد اور یہ ایک باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا خصوصاً جبکہ بھتیجے کا باپ وفات پاچکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ موقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ ﷺ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ ﷺ نے صبح سوریے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا ”یا صبا حاہ“ [ہائے صبح کی آفت] عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلہ پر حملہ کرنے کے لیے دیکھ لیتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا کہ یہ محمد ﷺ کی آواز ہے اس پر قریش خاندان کے تمام لوگ آپ ﷺ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آسکتا تھا وہ خود آیا اور جونہ آسکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اے بنی فلاں اے بنی فلاں! اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات صح مانو گے؟ لوگوں نے کہااں ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں

کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا رسول اللہ ﷺ کے اپنے پچا ابوالہب نے کہا: تَبَّا لَكَ أَلِهَنَا جَمَعْتَنَا ستیاناس ہو جائے تیرا کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پھر اٹھایا تاکہ رسول ﷺ پر کھینچ مارے۔

[مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن حجر وغیرہ]

ابن زید کی روایت ہے کہ ابوالہب نے رسول ﷺ سے ایک روز پوچھا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو اور سب ایمان والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا تَبَّا لَهُذَا الدِّين تَبَّا أَنَّ أَكُونُ وَهُولَاءِ سَوَاءً۔ [ابن حجر ۱/۳۳۶] ستیاناس ہو جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔

مکہ میں ابوالہب رسول اللہ ﷺ کا قریب ترین ہمسایہ تھا دونوں کے گھر ایک دیوار بینچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص [مروان کا باپ] عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حصراء اور ابن الاسداء الہذی لی بھی آپ ﷺ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی رسول اللہ ﷺ کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ ﷺ کبھی نماز پڑھے رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا او جھ آپ ﷺ پر پھینک دیتے کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا یہ ہندیا پر غلافت پھینک دیتے۔ رسول اللہ ﷺ باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ ابوالہب کی بیوی امِ جیل [ابوسفیان کی بہن] نے تو یہ مستقل وظیرہ ہی اختیار کر کھا تھا کہ راتوں کو آپ ﷺ کے گھر کے دروازے پر خاردار

جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سوریے جب آپ یا آپ کے پیچے باہر نکلیں تو کوئی کاشنا پاؤں میں چھپ جائے۔

[بیہقی۔ ابن ابی حاتم۔ ابن حریر۔ ابن عساکر۔ ابن هشام]

نبوت سے پہلے رسول ﷺ کی دو صاحبزادیاں ابوالہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے بیا، ہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد ﷺ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتبیہ توجہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا ایک روز رسول اللہ ﷺ کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں وَالنَّجْمُ إِذَا هُوَى اور الَّذِي دَنَّا فَهَذَلَّی کا انکار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف تھوکا جو آپ ﷺ پر نہیں پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا یا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے اس کے بعد عتبیہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دورانی سفر ایک ایسی جگہ پر قافلے نے پڑا۔ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ درندے راتوں کو آتے ہیں۔ ابوالہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد ﷺ کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتبیہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھادیئے اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقہ میں سے گذر کر اس نے عتبیہ کو پھاڑ کھایا۔

[الاستيعاب لابن عبد البر۔ الاصحاب لابن حجر، دلائل النبوة لابن نعيم الاصفهاني، الروض الانف

روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کے اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ”بَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ“ کے نزول کے بعد پیش آیا تھا اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابوالہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتبہ تھا لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس لیے صحیح بات بھی ہے کہ یہ لڑکا عتبہ تھا۔ اس کے خبیث نفس کا یہ حال تھا جب رسول ﷺ کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لوآنج محمد ﷺ نے اپنے نام و نشان ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو ابوالہب آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ ﷺ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد الدینی بیان کرتے ہیں کہ میں نو عمر تھا اپنے باپ کے ساتھ ذوالماजز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاخ پاؤ گے اور آپ ﷺ کے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے دین آبائی سے پھر گیا ہے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابوالہب ہے۔

[السیرۃ النبویۃ / ۴۶۲]

دوسری روایت انہی حضرت زبیعہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ آیک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے ہیں ۔ اے نبی فلاں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی

عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو، تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں یہ تم کولات اور عزی سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا پچھا ابوالہب ہے۔

[مستند احمد ۴۹۲/۲۔ طبرانی ۵/۵۵]

طارق بن عبد اللہ المخاربی کی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ذوالماجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہو فلاج پاؤ گے اور پیچھے ایک شخص ہے جو پھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ مانو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا ان کا پچھا ابوالہب ہے۔ [طبرانی کبیر ۸/۳۲۶]

نبوت کے ساتویں سال جب قریش خاندان کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول ﷺ کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تو تنہا یہی ابوالہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا یہ مقاطعہ تین سال تک رہا اور اس دوران میں بنو ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آگئی مگر ابوالہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی

خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجر وہ سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خریدنہ سکیں۔ تمہیں جو خسارہ بھی ہو گا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے ساتھ خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابوالہب انبیاء تاجر وہ سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ [ابن حماد ابن بشام]

یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سوت میں نام لے کر اس کی نعمت کی گئی خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے ان کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا اپنا چچا آپ ﷺ کے پیچھے لگ کر آپ ﷺ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلافی موقع سمجھتے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پھر مارے اور اس پر ازام تراشیاں کرے اس وجہ سے وہ ابوالہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ ﷺ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے مگر جب یہ سورہ نازل ہوئی اور ابوالہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔

اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ ﷺ کے چچا کی نعمت کی گئی تو لوگوں کی یہ موقع ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مذاہنت برداشت سکتے ہیں جب علی الاعلان رسول ﷺ

کے اپنا چپا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں لاگ لپٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے اس معاملہ میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔

## ابوالہب کی عبرتاك موت

اس گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ نے موت بھی بڑی ذلت آمیز دی ہے۔  
 ابولہب ملعون نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو ترک کرنے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا لیکن اس سورہ کے نزول پر سات آنھ سال ہی گذرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر ویشتروہ بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابولہب کے ساتھ تھی۔ مکہ میں جب اس ہنگست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتاك تھی۔ اسے عدسه [طاعون] کی پیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں اچھوت لٹکنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش مڑ گئی اور بو پھینے لگی آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کئے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ جھیپھیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش انھوں کی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدا کھدا اور لکڑیوں سے اس کی لاش دھکیل کر اس میں پھینکا اور اپر سے مٹی پھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا اس کی مزید اور مکمل ہنگست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا

اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا سب سے پہلے اس کی بیٹی ذرتہ بھرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں اور اسلام لائیں پھر شق مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹیے عتبہ اور معتب حضرت عباس کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی۔

### ۳:- امیہ بن خلف

امیہ بن خلف آپ ﷺ کو علی الاعلان گالیاں دیتا اور جب آپ ﷺ کے پاس سے گذرتا تو آنکھیں مٹکاتا اس پر یہ سورہ نال ہوئی۔

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لِّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّهُ ۝ يَخْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيَبْدَأَ فِي الْحُطْمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝﴾.

[سورہ همزة] [الاصابہ ۴۰۵/۲]

”تباهی ہے ہر اس شخص کے لیے جو [منہ درمنہ] لوگوں پر طعن اور [پیشہ پیچے] برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی [اس حالت میں کہ وہ] اونچے اونچے ستونوں میں

گھرے ہوئے ہوں گے۔“

جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و مگان بھی نہ تھا اس وقت سعد بن معاذ رض کی زبانی مکہ ہی میں اپنے قتل کی پیشین گوئی سن چکا تھا۔ اس لیے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرتا تھا۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر ”آذر کُوَا عِبْرَكُمْ“ اپنے تجارتی قافلہ کی خبر لو [یعنی قافلہ ابوسفیان] لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا امیہ نے پہلو تھی کی ابو جہل نے کہا اے صفوان آپ اس وادی کے سردار ہیں آپ کی پہلو تھی کو دیکھ کر دوسرا لوگ بھی پہلو تھی کریں گے۔ ابو جہل برابر اصرار کرتا رہا امیہ جب مجبور ہو گیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ تیز رو اونٹ خریدوں گا۔ تاکہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آجائوں اور اپنی بیوی ام صفوان سے جا کر کہا کہ سفر کا سامان تیار کر دے۔ ام صفوان نے کہا کیا تم کو اپنے یہ رہی بھائی کا قول [کہ تم محمد ﷺ کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے] یاد نہیں رہا، امیہ نے کہا نہیں خوب یاد ہے۔ میرا ارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پا کر واپس ہو جاؤں گا اسی طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔

[بعماری باب من بقتل ببلو فتح الباری ۳۲۱/۷]

جب بدر کے میدان میں آیا تو بلاں رض کی نظر پڑی جن کو امیہ مکہ میں گرم پھروں پر لٹایا کرتا تھا۔ حضرت بلاں رض نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو پکارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رض زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے وہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہو جائے۔ شاائد اللہ تعالیٰ اس بہانہ سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے لیے عذاب سے نجات پائے۔

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه کے ہاتھ میں کچھ زر ہیں تھیں جو کافروں سے  
جھینی تھیں ان کو زمین پر ڈال دیا اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت  
بلال نے دیکھ کر آواز دی پکڑ و کفر کے سردار امیہ کو نہ بچوں میں اگر امیہ نجی جائے  
انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضي الله عنه نے امیہ کے بیٹے کو آگے  
کر دیا انصار نے اس کو قتل کر دیا اور امیہ کی طرف دوڑے۔ عبد الرحمن امیہ کے  
اوپر لیٹ گئے مگر انصار نے اسی حالت میں پاؤں کے نیچے سے تواریں چلا کر  
امیہ کو قتل کیا جس سے عبد الرحمن کے پیر پر زخم آیا اور مدت توں تک اس زخم کا نشان  
باقی رہا۔ [المسند للدحیۃ لابن القیم / ۲۳۸]

عبد الرحمن فرمایا کرتے تھے خدا بلال پر رحم فرمائے میری زر ہیں بھی  
گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے۔

### ۳:- ابی بن خلف

ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز  
بوسیدہ ہٹی لے کر آپ ﷺ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی  
خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کیا اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا؟ آپ ﷺ نے  
فرمایا ہاں اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہو جانے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا  
اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر سورہ لیں کی یہ آیت نازل ہوئی ”وَضَرَبَ  
لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ“ تا آخر سورہ۔

ابی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے مارا گیا۔

[تاریخ ابن الانبار / ۲۶ و ابن هشام / ۱۲۶ باب من يقتل من المشركين يوم احد]

## ۵: عقبہ بن ابی معیط

یہ شخص رسول اللہ ﷺ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ بعذبان اور دریدہ وہن تھا۔ قول اور فعل سے آپ ﷺ کی تذلیل اور توہین سب وشم میں استہزا اور تمثیر میں ہاتھ اور زبان سے ایذا رسانی میں کوئی دیقیقہ نہ اٹھا کر کھا تھا۔ ایسا ہی ایک اور شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا وہ بھی بڑا موزی اور گستاخ رسول تھا اس لیے خاص طور پر جنگ بدر کے تمام قیدیوں میں سے صرف ان دونوں کی گروں مارنے کا حکم دیا۔ اسی عقبہ بن ابی معیط نے جب کہ آپ ﷺ بارگاہ خداوندی میں سر بخود تھے آپ ﷺ کی پشت مبارک پر اوٹ کی او جھلا کر کھی تھی اور آپ کا گلا گھوٹا تھا۔ دلائل ابی نعیم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس گستاخ نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور پر تھوکا بھی تھا جس کی اسے فوری سزا بھی مل گئی تھی چنانچہ ملاحظہ ہو۔

سورۃ الفرقان میں یہ آیت ہے۔ ”يَقُولُ يَا أَيُّتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فَلَانَا خَلِيلًا“ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشڑک سرداروں میں سے تھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا اور اکثر رسول اللہ ﷺ سے بھی ملا کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے حسب عادت معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ ﷺ کو بھی بلا یا جب اس نے آپ ﷺ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس

وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک عبادت نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ ﷺ نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔

عقبہ کا ایک گھرہ دوست ابی بن خلف تھا جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت براہم ہوا عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہماں محمد ﷺ میرے گھر پر آئے ہوئے تھے اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لئے بڑی رسوائی ہوتی اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کنجخت دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزراللہ تعالیٰ نے فوری یہ سزادی کہ اس کا تھوک چہرہ انور پر تو نہیں گرا بلکہ الا اسی کے چہرہ پر آگ بن کر گرا جس سے اس کا چہرہ چل گیا اور وہ چینخ چلانے لگا پھر مرنے تک اس کے چہرہ پر جلنے کے نشانات قائم رہے۔

عقبہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور مقام صفراء میں پہنچ کر اس کی گردن حضرت عاصم بن ثابت النصاری رضی اللہ عنہ نے اڑادی۔

[السیرۃ النبویۃ لابن کثیر ۲/۴۷۳]

## بے دین دوستوں کی دوستی کا انجام

ذکورہ واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حضرت وندامت کا باعث ہوگی جو دو دوست کسی معصیت

اور گناہ پر جمع ہوں خلافِ شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گھرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَ لَا يُأْكُلُ مَالَكَ إِلَّا تَقِيًّا.

[ابن حبان / ۳۱۴ / ۲]

کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا مال [بطورِ دوستی کے] صرف متقی آدمی کھائے یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف.

(احمد / ۲۰۲ و أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمِّن بحالِ رقْم (۴۸۳۲) و الترمذی، كتاب الزهد، باب (۴۵) رقم (۲۲۷۸) والبيهقي رقم (۹۴۳۶)

ہر انسان عادۃ اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کرتا ہے اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنارہے ہو۔

حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

من ذكركم بالله رؤيته و زاد فى علمكم منطقه

وذکر کم بالآخرة عمله [بزار]

وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم

بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھو آخرت کی یاد تازہ ہو۔

## ۶:- ولید بن مغیرہ

ولید بن مغیرہ بھی بڑا گستاخ اور کثیر الایذاء تھا کہتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر وحی نازل ہوا اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیئے جائیں حالانکہ ہم دونوں اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں میں قریش کا سردار ہوں ابومسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ  
عَظِيمٌ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نُخْنُ قَسْمَنَا بَيْتَهُمْ  
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ  
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
قِيمًا يَجْمَعُونَ﴾۔ [سورہ زکریٰ: ۳۱] [ابن حشام ۱/ ۱۲۶]

”کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بر کے لے ذراائع توہم نے ان کے درمیان تقسیم کئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے کچھ لوگوں پر ہم نے بدرجہا فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو [ان کے رئیس] سمیٹ رہے ہیں۔“

یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاهت پر

نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عقبہ اور شیبہ پر ان ربعیہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپؐ ان کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آپؐ کی مسجد میں ناپینا ماؤڈن کچھ دریافت کرنے کے لیے آپؐ نے یہ سمجھ کر کہ ابن مکتوم ﷺ تو مسلمان ہیں ہی پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے۔ لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں اگر اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپؐ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر انتباہ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے مگر اللہ ذوالجلال کی رحمت جوش میں آگئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔

**﴿عَبَسَ وَتَوَلََّ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾**. الی آخر سورہ

[سورہ عبس]

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپؐ ان کے لیے اپنی چادر بچھادیتے اور یہ فرماتے ”مَرْحَبًا بِمَنْ فِيهِ عَاتَبْنِ رَبِّي“ مرحبا ہواں شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا۔

ولید بن مغیرہ کے ذلیل ہو کر مرنے کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

**کے:- ابو قیس بن الفا کہ**

یہ بھی رسول اللہ ﷺ کو شدید ایذاء پہنچاتا تھا۔ ابو جہل کا خاص معین

اور مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بد ر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔

## ۸۔ نظر بن حارث

نظر بن حارث سردار ان قریش میں سے تھا۔ تجارتے کے لیے فارس جاتا اور وہاں سے شاہانِ عجم کے فقصص اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تم کو عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو ستم اور اسفند یا ر اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے [جیسے آج کل ناول ہیں] لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے اس نے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی لوگوں کو اس کا گانا سنواتا جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس بونڈی کے لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا نہ پھرا س سے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شیء بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد بلا تے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْعَدِيْنِ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

بغیر عِلْمٍ وَ يَتَعَذَّدُهَا هُرُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِمِّنٌ ۝ وَ إِذَا

تُتْلَى عَلَيْهِ اِيْشَنَا وَلِيٰ مُسْتَكِبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِيْ

أَذْنِيهِ وَ قَرًا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾۔ [سورہلقمان: ۶۰]

[روح المعانی ۶۹/۲۱]

”اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلامِ لفربیب خرید کر لاتا ہے تا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور حق

کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔“

### تنبیہہ:-

کھلانا پلانا اور لڑکیوں کا گانا سنوانا اور اس طرح اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصاری خاص طور پر کاربند ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور شیعہ کے ہاں متعدد کی بھی یہی پوزیشن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی عقل دی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ والوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک

نصر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم سے حضرت علیؓ نے اس کی گردان اڑا دی۔

### ۹:- عاص بن واہل سہمی

العاص بن واہل سہمی یعنی حضرت عمر و بن العاص کے والد ہیں یہ بھی ان لوگوں سے تھے جو آپؐ کی ذات برکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب آپؐ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تو العاص بن واہل نے کہا:

ان محمدًا ابتر لا يعيش له ولد.

محمد ﷺ تو ابتر ہیں ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا۔

ابتردم کئے جانور کو کہتے ہیں جس شخص کا آگے پچھے کوئی نام لیوانہ رہے  
گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی:  
 «إِنَّ شَانِثَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ». [سورة کوثر]  
 آپ ﷺ کا دشمن ہی ابتر ہے۔

آپ ﷺ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہجرت کے ایک ماہ  
بعد کسی جانور نے عاص کے پیر پر کاث لیا جس سے اس کا پاؤں اس قدر پھولا  
کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔

## ۱۱:- نبیہ و مُنَبِّہ پسر ان جماج

نبیہ اور منبہ بھی آپ ﷺ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے جب  
کبھی آپ ﷺ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا اللہ کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے  
کے لیے نہیں ملا تھا یہ دونوں بھی جنگ بدر میں مارے گئے۔

## ۱۲:- اسود بن مطلب

اسود بن مطلب اور اسکے ساتھی جب کبھی رسول اللہ ﷺ اور آپ  
کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے  
زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیصر و کسری کے خزانوں پر قبضہ کریں گے یہ کہہ  
کریں یا اور تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے بدعا فرمائی کہ اے اللہ اس  
کو نابینا فرمائنا کہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے] اور اس کے بیٹے کو ہلاک  
فرمایا۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش مکہ

جس وقت جنگ احمد کی تیاری کر رہے تھے اسود اس وقت مریض تھا لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لیے آمادہ کر رہا تھا جنگ احمد سے پہلے ہی مر گیا۔

### ۱۳:۔ اسود بن عبد یغوث

اسود بن عبد یغوث رسول اللہ ﷺ کے ماموں کا بیٹا تھا جس کا سلسلہ نسب یہ ہے اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ یہ بھی آپ ﷺ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا جب فقراء و مساکین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بنے والے ہیں جو کسری کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا تو کہتا آسمان سے کوئی بات نہیں آئی؟ اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا۔

### ۱۴:۔ حارث بن قیس سہمی

جس کو حارث بن عیطہ بھی کہا جاتا ہے عیطہ ماں کا نام ہے قیس باب کا نام تھا۔ یہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھا جو آپ ﷺ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کہ وہ حکومتے رکھا ہے کہ وہ مر نے کے بعد زندہ ہوں گے۔  
 «وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»۔

اللہ کی قسم ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور بر باد کرتا ہے۔

جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گذر گیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں:

﴿فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُبْتَهَرِينَ﴾.

جس چیز کام کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور جو لوگ آپ ﷺ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔

زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ پانچ شخص تھے۔

۱:- اسود بن عبد یغوث      ۲:- ولید بن مغیرہ

۳:- اسود بن عبد المطلب      ۴:- عاص بن واہل

۵:- حارث بن قیس

ایک بار آپ ﷺ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آگئے آپ ﷺ نے جبریل امین سے ان لوگوں کے استہزا اور تمسخر کی شکایت کی اتنے میں ولید بن مغیرہ سامنے سے گذرا آپ ﷺ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبریل امین نے ولید کی شہرگ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ ﷺ ولید سے کفایت کئے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گذرا آپ ﷺ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ جبریل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ ﷺ اسود بن مطلب سے کفایت کئے گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گذرا جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور صپ سابق آپ ﷺ کے سوال پر جواب

دیا کہ آپ ﷺ کفایت کئے گئے اس کے بعد حارث گذر اجبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ ﷺ کفایت کئے گئے اس کے بعد عاص بن واکل ادھر سے گذر اجبریل نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ ﷺ اس سے کفایت کئے گئے۔

چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبلہ خزانہ کے ایک شخص پر گذرا جو تیر بنا رہا تھا اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر آگیا جس سے خفیف ساز خم ہو گیا اس خم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ اسود بن عبدالمطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ میری آنکھوں میں کوئی شخص کا نئے چھارہا ہے لڑکوں نے کہا، میں کوئی نظر نہیں آتا اسی طرح کہتے کہتے انداھا ہو گیا۔ اسود بن عبدیغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبریل امین کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوٹے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں دفعہ ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن واکل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا راستے میں گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس پر جا گرا جس سے پاؤں میں ایک معمولی سا کاٹا لگا مگر اس معمولی کا نئے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جان بترنہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔ [الباجع لا حرام، القرآن للقرطبی ۱۰/۶۲]

## ایک مفتری کا انتب کا واقعہ

امام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں عبد العزیز بن صحیب سے روایت کیا

اور اس نے حضرت انس رض سے کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا اور اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی لکھا کرتا تھا اس نے پھر عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور کہا کرتا تھا کہ محمد وہی کچھ سمجھتے ہیں جو میں اسے لکھ دیتا ہوں وہ مر گیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو قبر نے اسے نکال پھینکا تھا لوگوں نے کہا یہ محمد ﷺ اور اس کے اصحاب کا فعل ہے انہوں نے قبر کھود کر اسے باہر نکال دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی جو بہت زیادہ گھری تھی لیکن جب صبح ہوئی پھر لاش باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گھری ان کے بس میں تھی کر کے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے [ بلکہ یہ میت عذاب الہی میں گرفتار ہے ] چنانچہ انہوں نے اسے یونہی [ زمین پر ] ڈال دیا۔ یہ اس کے ارتداد اور توہین رسالت کی سزا تھی کہ زمین نے اس کے بدترین لاشہ کو حکم رب العالمین باہر پھینک دیا۔

[بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام ۱۳۲۵/۳]

**شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:**

فهذا الملعون الذى افترى على النبي ﷺ انه ما كان يدرى الا ما كتب له قصبه الله وفضحه بان اخرجه من القبر بعد ان دفن مرارا وهذا امر خارج عن العادة يدل كل احد على ان هذا كان عقوبة لما قاله وانه كان كاذبا اذ كان عاملا الموتى

لایصیبهم مثل هذا و ان هذا الجرم اعظم من مجرد الارتداد  
واذ كان عامة المرتدین يموتون ولا يصيّبهم مثل هذا و ان الله  
منتقم لرسوله ممن طعن عليه و سبه ومظہر لدینہ ولکذب  
الکاذب اذ لم يكن للناس ان یقیموا علیہ الحد.

[الصارم المسلول ص ۱۱۶]

اس افتراء پروازی کرنے والے ملعون کو جو کہا کرتا تھا کہ محمد کو وہی بات معلوم  
ہوتی ہے جو میں لکھ دیتا ہوں تو ڈپھوڑ دیا اور اسے رسو اکر دیا اور وہ یہ کہ قبر  
میں دفن کرنے کے بعد قبر نے اسے کئی دفعہ باہر پھینک دیا یہ خارق عادت  
امراں بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کے قول کی سزا تھی اور یہ کہ وہ جھوٹا  
تھا اس لیے کہ عام مردوں کی یہ حالت نہیں ہوتی اور یہ جرم محض ارتداد سے  
بہت بڑا ہے عام مرتد مر جاتے ہیں اور ان کو ایسا واقعہ پیش نہیں آتا نیز یہ کہ  
جو شخص رسول کریم ﷺ کو گالی دیتا اور آپ ﷺ پر طعن کرتا ہے تو اللہ  
تعالیٰ اپنے رسول کا انتقام لیتا اور اس کے کذب کو نہیاں کرتا ہے کیونکہ  
لوگوں کے لیے اس پر حد قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

صحابہ کرام شاتم رسول ﷺ کو قتل کر دیا کرتے تھے  
اگرچہ ان کا رشتہ دار، ہی کیوں نہ ہوتا

آپ ﷺ کے صحابہ کسی کے بارے میں سنتے کہ وہ رسول کریم ﷺ  
کو گالیاں دیتا ہے اور دکھ پہنچاتا ہے تو اسے قتل کر دلتے اگرچہ وہ ان کا قریبی  
رشتہ دار ہوتا اس معاملہ میں آپ ﷺ ان کی تائید کرتے اور اس سے خوش

ہوتے بعض اوقات آپ ایسا کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے "ناصر" کا لقب دیتے۔ ابو اسحاق النزاری نے سیرت پر اپنی مشہور کتاب میں بطريق سفیان ثوری از اسماعیل بن سمیع، مالک بن عییر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنے والد کو مشرکین میں پایا اور آپ ﷺ کے حق میں اس سے ایک قبیح جملہ سنائیں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھ سکا جب تک نیزہ مار کر اسے موت کی نیند نہ سلا دیا اور یہ بات آپ ﷺ پر ناگوار نہ گزری ایک اور آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے اپنے والد کو مشرکین میں پایا اور اسے قتل کر دیا اور یہ بات بھی آپ ﷺ پر ناگوار نہ گزری۔

حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب مشرکین نے صفا آرائی کی تو ان میں سے ایک آدمی سامنے آ کر رسول کریم ﷺ کو گالیاں دینے لگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں فلاں بن فلاں ہوں اور میری ماں فلاں عورت ہے تم مجھے اور میری ماں کو گالیاں دے لو مگر رسول کریم ﷺ کو گالیاں دینے سے باز آ جاؤ اس سے وہ اور مشتعل ہو گیا اور پھر گالیوں کا اعادہ کرنے لگا مسلمان نے پھر اسے منع کیا پھر تیسری مرتبہ کہا اگر تم نے پھر اس کا اعادہ کیا تو میں توارے کرتم پر چڑھ جاؤں گا اس نے پھر گالی دی مسلمان نے اس پر حملہ کر دیا مشرک بچھے ہٹا مسلمان نے اس کا تعاقب کیا اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس

پر تلوار کا اور کیا مشرکین نے اسے شہید کر دیا یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اعجبتم من رجل نصر الله ورسوله.

کیا تمہیں اس آدمی پر حیرت ہوتی ہے جس نے اللہ اوس کے رسول کی مدد کی۔

پھر اس شخص کے زخم مندل ہو گئے اور وہ اسلام لے آیا اس شخص کو ”رجیل“ کہا جاتا تھا۔

عمر بن عدی کا واقعہ گذر چکا ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ بنتِ مروان، رسول اللہ ﷺ کو ایذا دے رہی ہے تو اس نے کہا: اے اللہ! میں تیرے حضور نذر مانتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ لوٹ کر مدینہ آگئے تو میں اس عورت کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے رسول کریم ﷺ سے اجازت لیے بغیر اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اگر تم ایسے آدمی کو دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی ہے عمر بن عدی کو دیکھ لو۔

اسی طرح یہودی عورت اور ام ولد کا واقعہ پہلے گذر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دینے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اس آدمی کا واقعہ بھی گزر چکا ہے جس نے ابن ابی سرح کو قتل کرنے کی نذر مانی تھی۔ رسول اللہ ﷺ اس کی بیعت لینے سے اس لیے رکے رہے کہ وہ شخص اسے قتل کر کے اپنی نذر پوری کر لے۔

حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا كَا شَانٍ وَرُود  
حضرت عبد اللہ بن عمر و فضیلہ بن حماد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے  
فرمایا:

بلغوا عنی ولو ایة و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج  
و منْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ.

[البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل رقم (۲۴۶۱)]

”میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو  
اور بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے  
دانستہ مجھ پر جھوٹ بولاوہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے۔“

یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اس  
حدیث کا نصف آخر [و منْ كَذَبَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْجَمَاتِ] امام نووی اور حافظ ابن  
حجر کی تصریح کے مطابق دو صحابہ سے مروی ہے اس حدیث کے کثرت طرق  
کی بنا پر اسے متواتر لفظی و معنوی کہا گیا ہے۔

مشکل الائمه طحاوی میں اس حدیث کا شان و رود یہ بیان کیا گیا ہے  
کہ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے ایک قوم سے کہا کہ رسول اللہ  
ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے اموال کے بارے میں  
اپنی رائے سے فیصلہ کروں۔ اس نے دور جاہلیت میں ان سے ایک عورت کا  
رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے عورت کو اس کے نکاح میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔  
پھر جا کر اس عورت کے یہاں مقیم ہو گیا ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو بلا

بھیجا آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے پھر ایک آدم کو بھیجا اور فرمایا اگر تم اسے زندہ پاؤ تو قتل کرو اور اگر مردہ پاؤ تو اسے نذر آتش کرو۔ جب وہ شخص پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کے ڈسے سے مر چکا ہے چنانچہ اس نے اس آگ میں جلا دیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دانتے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے۔

ابو احمد بن عدی نے نقل کیا ہے کہ بنویث کا ایک خاندان مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ دورِ جاہلیت میں ایک آدمی نے ان سے رشتہ مانگا تھا مگر انہوں نے نہ دیا ایک روز وہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے سوت پہن رکھا تھا اس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ سوت پہننا یا اور حکم دیا تھا کہ تمہارے خون و مال میں جیسے چاہوں فیصلہ کروں پھر جا کر اس عورت کے یہاں مقیم ہوا جسے وہ چاہتا تھا اس قوم نے رسول کریم ﷺ کی طرف پیغام بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا۔ پھر ایک آدمی کو بھیج کر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اگر تم اسے زندہ پاؤ — اور میرا خیال ہے کہ تم اسے زندہ نہ پاؤ گے — تو اس کی گردن اڑا دو اور اگر مردہ پاؤ تو آگ میں جلا دو۔

[کامل لابن عدی ۴/۱۳۷۱]

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جا کر اسے قتل کرو اور آگ میں جلا دو۔ پھر جب وہ آدمی نکل گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے واپس بلاو جب وہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں نے تمہیں اس کی گردن اڑانے اور اسے آگ میں جلانے کا حکم دیا ہے تو اللہ اگر تجھے اس پر قدرت عطا کر دے تو اس کی گردن اڑا دو اور اسے آگ میں مت

جلاؤ اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف وہ ذات دیتی ہے جو آگ کی مالک ہے اور میرا خیال ہے کہ تمہاری جان اس سے چھوٹ جائیگی۔ اندر میں اثناء گرج دار بادل آسمان پر چھا گیا وہ آدمی وضو کرنے کے لیے نکلا اور اس کو سانپ نے ڈس لیا جب رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔

[الصارم المسلول]

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ پر جھوٹ باندھا تو آپ ﷺ نے حضرت علیؑ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہو کو بیچ کر اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ [الصارم المسلول ص ۱۹۷]

مذکورہ حدیث کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا جائے اور جھوٹ باندھنے والے کو قتل کیا جائے ان میں سے کچھ لوگ اس کو کافر قرار دیتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس قول کے دلائل تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو المتعبد لتکذیب الله واسوا حالا وليس يخفى ان من كذب على من يحب تعظيمه فإنه مستخلف به مستيدين بحقه وايضاً فإن الكاذب عليه لابد ان يشينه بالكذب عليه وينقصه بذلك ومعلوم انه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن ابي سرح في قوله كان يتعلم منى او رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الاقوال الخبيثة كفر بذلك فكذلك الكاذب عليه.

[الصارم المسلول ص ۱۷۳]

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عمدًا اللہ پر جھوٹ باندھے وہ دانستہ اللہ کی تکنذیب کرتا ہے اور وہ زیادہ برآ ہے اور پوشیدہ نہ رہے کہ جو شخص اس ذات پر جھوٹ باندھے جس کی تعظیم و احتجاب ہو تو وہ اس کی توہین و تحقیر کا ارتکاب کرتا ہے۔ مزید برآں اس پر جھوٹ باندھنے والا اس پر افتراء کر کے اسے عیب دار ظاہر کرتا ہے اور اس کی تنقیص کرتا ہے اور یہ بات عیاں اور واضح ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھے جس طرح ابن ابی سرح نے باندھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ محمد مجھ سے سیکھتا ہے یا اس کو بعض مہلک فواش یا اقوال خبیثہ کے ساتھ مہتم کرے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ﷺ پر جھوٹ باندھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔

علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ﷺ پر جھوٹ بولنے والے کوخت سزادی جاتی ہے مگر اسے کافر قرار نہیں دیا جاتا اسے قتل کرنا بھی جائز نہیں اس لیے کہ کفر اور قتل کے موجبات معلوم ہیں اور یہ ان میں سے نہیں اور جائز نہیں کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے جس کی کوئی اصل نہ ہو اور جو شخص اس کا قائل ہے اس کے قول کو اس طرح مقید کیا جائے گا کہ آپ ﷺ پر افتراء پردازی کسی ظاہری عیب کو منعمن نہ ہو لیکن اگر وہ خبر دے کہ اس نے ایسی بات سنی ہے جو ظاہراً آپ ﷺ کے نقش و عیب پر دلالت کرتی ہے تو یہ کھلم کھلا استہزا اور تفحیک ہے بلاشبہ ایسا شخص کافر اور مباح الدم ہے جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ معلوم تھا کہ وہ کافر ہے اس لیے آپ ﷺ نے اسے قتل کر دیا افترا پردازی کی وجہ نہیں ہے۔

یہ جواب بیکار ہے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ شیوه نہ تھا کہ کسی منافق کو اس بنا پر قتل کر دیں کہ کسی ثقہ آدمی نے اسے منافق نامہ ریا ہے یا قرآن سے اس کا منافق ہونا ثابت ہوتا ہے پھر آپ ﷺ ایسے شخص کو کیونکر قتل کر سکتے ہیں جس کے منافق ہونے کا صرف آپ ﷺ کو علم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بہت سے آدمیوں کو منافق کہا مگر ان میں سے کسی کو بھی قتل نہ کیا۔ مزید برآں حدیث میں جس سبب کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول کریم ﷺ پر ایسی افتراء پردازی ہے جس میں اس کی کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہوتی کوئی اس پر مرتب کیا گیا ہے لہذا قتل کو کسی اور سبب کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے کسی قول یا فعل پر اعتراض و طعن کرنا

آپ ﷺ کی توہین ہے

جو شخص رسول اللہ ﷺ کے کسی فعل یا قول پر تنقید یا اعتراض کرے تو وہ توہین رسالت کا مرکتب ہے کیونکہ ایسی تنقید اور طعن و اعتراض سے آپ ﷺ کو ایذا پہنچتی ہے لہذا ایسا آدمی بھی واجب القتل ہے۔

حضرت شعبی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو عزی بنت کامال مغلوایا اور اسے اپنے سامنے بکھیر دیا پھر نام لے کے ایک آدمی کو بلا یا اور اس میں سے کچھ دیا پھر ابوسفیان بن حرب اور سعد بن حریث کو بلا کر اس میں سے دیا پھر قریش کی ایک جماعت کو بلا کر کچھ مال دیا۔ آپ ﷺ ایک شخص کو بلا کر سونے کا ایک نکڑا دیتے جس میں پچاس مشقال سے ستر مشقال تک سونا ہوتا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اسی طرح کہا مگر رسول اللہ ﷺ

نے منہ پھیر لیا پھر تیر سے نے کھڑے ہو کر کہا آپ ﷺ فیصلہ کرتے ہیں مگر اس میں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا آپ ﷺ نے فرمایا تمھر پر افسوس ہو پھر میرے بعد انصاف کون کرے گا؟ پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ جا کر اسے قتل کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور اسے نہ پایا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ اگر تم اسے قتل کر دیتے تو مجھے امید تھی کہ یہ ان میں سے پہلا آدمی بھی ہوتا اور آخری بھی۔

یہ حدیث اس مسئلہ میں نص کا حکم رکھتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر طعن کرنے والے کو توبہ کا مطالبہ کئے بغیر قتل کیا جائے۔

### خوارج کے بارے میں احادیث

۱:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے اس سونے کی تقسیم میں رسول کریم ﷺ کو مورد طعن بنایا تھا۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے بھیجا تھا اس نے کہا تھا یا رسول اللہ! اللہ سے ڈر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کی نسل میں سے ایسی قوم نکلے گی جو قرآن کریم کی تازہ تلاوت کریں مگر وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کو پالیا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔

[البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب (۶) رقم (۳۴۴). مسلم، کتاب الزکرة، باب اعطاء المؤلفة ..... رقم (۱۰۶۴)]

۲:- حضرت علیؑ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

کو فرماتے سنا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم نکلے گی جو نو عمر اور کم عقل ہوگی۔ وہ سید الخلق اور کے اقوال نامیں گے ان کا ایمان ان کے گلے سے یچھے نہ اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرنٹانے سے نکل جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی پاؤ تو ان کو قتل کر دو ان کے قاتل کا روز قیامت اجر ملے گا۔

[بخاری، کتاب استیابة والمعاذین ...، باب قتل العوارج والملحدین۔ ومسلم، کتاب الزکوة باب التحریض علی قتل العوارج رقم (۱۰۶۶)]

۳:- حضرت ابو بربزہؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ کے پاس مال آیا جو آپ ﷺ نے تقسیم کر دیا۔ آپ ﷺ نے دائیں جانب والوں کو بھی دیا اور بائیں جانب والوں کو بھی مگر جو پیچھے تھے ان کو کچھ نہ دیا۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نے کہا۔ اے محمد! آپ ﷺ نے تقسیم کرتے وقت انصاف کو لمحظہ نہیں رکھا۔ وہ ایک سیاہ فام منڈھے ہوئے بالوں والا آدمی تھا اور اس نے دوسفید کپڑے پہن رکھے تھے آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: واللہ تم میرے بعد کوئی ایسا آدمی نہ پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ عادل ہو۔ پھر فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم نمودار ہوگی گویا کہ یہ بھی ان میں سے ہے وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلے سے یچھے نہ اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرنٹانے سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی سرمنڈ وانا ہوگی وہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری آدمی دجال کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ جب تم انہیں ملوتو ان کو قتل کر دو وہ بی ن نوع انسان اور حیوانات سب سے بدتر ہوں گے۔

ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس

عتاب کرنے والے شخص کی جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے قاتل کو آخرت میں اجر ملے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں نے انکو پالیا تو ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ انسان و حیوان سب سے بدتر ہیں۔

ترمذی اور دیگر محدثین نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے کہا سطح آسمان کے نیچے وہ بدترین مقتول ہیں اور جس کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول ہیں ابوامامہ نے بتایا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو کئی مرتبہ یہ بات فرماتے ہوئے سنائے ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

﴿يَوْمَ تُبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾۔ [آل عمران: ۱۰۶]

جس روز کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔

رسول اکرم ﷺ کی شان میں بدگوئی کرنے والوں کے یہ واقعات وہ ہیں جو رسول ﷺ کے زمانہ میں پیش آئے لیکن رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے کے جرم میں انہیں معاف نہیں کیا گیا، بلکہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اب چند واقعات وہ لکھے جاتے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے انگریزی دولت حکومت میں واقع ہوئے اور غازیان اسلام نے ان شامانِ رسول ﷺ کو جہنم رسید کیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔

### راج پال ہندو کی توہین رسالت

۱۹۲۳ء کو لاہور میں راج پال ہندو نے رسوائے زمانہ کتاب ”رنگیلا رسول“ شائع کی۔ جس میں رسول اکرم ﷺ کی شان میں بڑی توہین کی گئی تھی جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، مسلمان زعماء نے حکومت سے اس کتاب کی فوری ضبطی اور اس کے ناشر کو قرار واقعی سزادی نے کامطالہ کیا، جس پر راج پال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ چلا یا گیا، لاہور کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ملزم کو چھ ماہ کی سزا دی لیکن اس وقت شادی لال جیسا متعصب چیف جسٹس تھا، اس کی ایماء پر راج پال ملزم کو سزا سے بری کر دیا گیا جس نے مسلمانوں کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔

### غازی خدا بخش کا راج پال پر پہلا قاتلانہ حملہ

۱۹۲۴ ستمبر / ۱۹۲۴ء کو جب ملعون راج پال اپنی دکان پر موجود کاروبار میں مشغول تھا ایک مرد مجاہد خدا بخش جو لاہور کا رہنے والا تھا اس خبیث

پر تیز دھار چاقو سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ لیکن اس بد بخت نے اس وقت بھاگ کر اپنی جان بچائی، غازی خدا بخش کو زیر دفعہ ۳۰ الف تعزیرات ہند گرفتار کر لیا اور ڈسٹرکٹ محکمہ ریٹ لا ہور سی ایم بی او گلوی کی عدالت میں اس کے مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ غازی خدا بخش نے اپنی طرف سے وکیل صفائی مقرر کرنے سے انکار کر دیا، راج پال مستغیث نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا:

مجھ پر یہ حملہ کتاب ”رُنگِیلا رسول“ کی اشاعت اور مسلمانوں کے ابھی ٹیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ ملزم خدا بخش اب بھی مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ حملہ کے وقت ملزم چلا یا تھا: ”کافر کے بچے! آج تو میرے ہاتھ آیا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔“

عدالت کے استفسار پر اس مرد غازی نے گرج دار آواز میں کہا: ”میں مسلمان ہوں، ناموس رسالت کا تحفظ میرا فرض ہے، میں اپنے رسول کی توہین ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔“

پھر راج پال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”اس نے میرے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی اس لیے میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن یہ کم بخت اس وقت میرے ہاتھ سے نکلا۔“

اقرار جرم کے بعد غازی خدا بخش کو سات سال قید بختم سنائی گئی۔

## غازی عبدالعزیز

اس واقعہ کے چند دن بعد ایک اور مرد غازی عبدالعزیز نے جو افغانستان سے اپنے سینہ میں اس دشمن اسلام راج پال کے خلاف غصہ کی آگ لے کر لا ہور پہنچا تھا۔ ۱۹۴۲ء کی شام راج پال کی دکان پر آیا، اتفاقاً اس وقت راج پال کا ایک دوست سوامی ستیا نند بیٹھا تھا، جسے غازی عبدالعزیز نے شامِ رسول سمجھ کر چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا، پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر غازی عبدالعزیز کو گرفتار کر لیا، عدالت نے اس مرد مجاهد کو بھی وہی سزا دی جو غازی خدا بخش کو دی گئی تھی، جسے بھگت کر یہ دونوں غازی جیل سے سرخرو ہو کر نکلے۔

## غازی علم الدین شہید کاراج پال پر حملہ

علم الدین ایک محنت کش تجارتی طالع مند "کاپیٹا تھا" جب علم الدین پیدا ہوا تو اس کی گود میں دیکھ کر ایک فقیر نے بشارت دی کہ تم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ ایسا نیک بخت بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ علم الدین نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم اپنے محلہ کی مسجد میں حاصل کی جو اس زمانہ میں بازار سرفوشاں کے نام سے مشہور تھا جب یہ بچہ ذرا بڑا ہوا تو باب نے جلدی سے اپنے ساتھ کام پر لگالیا، جس میں اس نے بڑی جلدی مہارت حاصل کر لی، علم الدین کا ایک بچپن کا ساتھی عبدالرشید تھا جسے سب پیار سے "شیدا" کے نام سے پکارتے تھے، شیدا کے والد کی دکان مسجد وزیر خان کے سامنے واقع تھی، ایک دن دونوں دوست گھر سے شام کے وقت جب مسجد وزیر خان پہنچے تو وہاں ایک

جلدے عام میں شیطان راج پال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، جس میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن اس مردو دراج پال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ تقریر سن کر دونوں دوست ترپ اٹھے گھر آ کر علم الدین نے اپنے والد طالع مند سے پوچھا۔

سوال: کیا کوئی شخص جو ہمارے نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کرے، وہ زندہ رہ سکتا ہے؟

جواب: باپ نے جواب دیا: بیٹا! مسلمان اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

سوال: کیا اسے مارنے والے کو سزا ملے گی؟ علم الدین نے باپ سے دریافت کیا؟

جواب: ہاں بیٹا! یہاں گوروں کے قانون کے مطابق اس کو بچانی کی سزا ملے گی۔

اسی رات علم الدین نے دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ نمودار ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں: علم الدین دشمن نے تمہارے نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے تم ابھی تک سور ہے ہواٹھوا اور جلدی کرو۔

یہ خواب دیکھ کر وہ فدائی رسول ﷺ فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے اوزار لے کر صبح سوریے اپنے دوست شیدا کے گھر پہنچا اور وہاں سے دونوں دوست بھائی دروازے کے سامنے والے کھلے میدان میں جا پہنچے علم الدین نے وہاں راز دارانہ طریقہ سے اپنے دوست "شیدا" کو رات والی خواب سنائی تو اس کی حیرت کی کوئی انہتائنا نہ رہی، کیونکہ اس نے بھی گذشتہ یہی خواب دیکھی تھی، اب

دونوں دوستوں میں تکرار ہونے لگی، دونوں کا اصرار تھا کہ اس موزی کو مارنے کے لیے اسے بشارت ہوئی ہے، آخر طے پایا کہ قرعدہ ڈالا جائے، اس میں جس کا نام آئے، وہی اس کام کو سرانجام دے، تین بار قرعدہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعدہ فال طالع مند کے خوش نصیب فرزند علم الدین کے نام نکلا، جس پر اس کا چہرہ خوشی سے چک اٹھا، شیدا کو اپنے اس دوست کی خوش بختی پر رشک آیا، اس نے علم الدین کو اس کامیابی پر مبارکباد دی، جس کے بعد دونوں دوست ایک دوسرے سے جدا ہو گئے وہاں سے علم الدین سید ہے گھر پہنچ وہ گھر آ کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے تو ذرا دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ دوبارہ نمودار ہو کر ان سے کہہ رہے ہیں:

”علم الدین یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جس کام کے لیے تمہیں چن لیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لے فوراً پہنچو ورنہ بازی کوئی اور لے جائے گا۔“

جس پر وہ ایک بار پھر اپنے دوست شیدا کے پاس الوداعی ملاقات کے لیے پہنچا اسے اپنی کچھ چیزیں بطور یادگار دیں اور دوبارہ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے منصوبے کی تکمیل کا پروگرام اپنے ذہن میں مرتب کر لیا اور گھر میں کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اس ڈر سے کہ کہیں خون اور قرابت کے رشتے اس راہ میں حائل نہ ہو جائیں، اس دن انہوں نے غسل کیا، سرخ دھاری دار قمیص اور سفید شلوار پہنی، سر پر گپڑی باندھی، صاف اور جمل لباس پر خوشبو لگائی، اس سے قبل انہوں نے اپنی ماں سے میٹھے چاول کی فرمائش کی تھی جسے باپ بیٹے نے مل کر تناول کیا باپ کے کسی کام پر جانے کے بعد علم الدین نے اپنی معصوم

بچتی کے ماتھے کو سوتے میں بڑے پیار سے چوما اور اپنی بھا بھی سے کچھ پیسے لے کر اس راج دھج سے خوشی خوشی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ علم الدین نے آج کے دن یہ سارا اہتمام کیوں کیا ہے گھر سے کمیٹی بازار پہنچ کر وہاں آتمارام کبازی یئے کی دکان سے ایک روپیہ میں ایک لمبا چاقوا خریدا اور اسے شلوار کے نیفہ میں رکھ لیا، پھر وہ سیدھے دوپھر کے وقت انارکلی ہسپتال روڈ، راج پال کی دکان کے سامنے والی ٹال پر پہنچے۔

### راج پال جہنم رسید

جوں ہی ٹال والے جوان نے علم الدین کو بتایا کہ وہ منحوس دکان کے اندر داخل ہوا ہے تو وہ اپنے شکار کے تعاقب میں دکان کے اندر پہنچ گئے اور اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس کے ساتھ ہی ان کے اندر عقابی روح بیدار ہوئی اور انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگی، چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ جھپٹ کر علم الدین نے راج پال خبیث کے سینے میں چاقو پیوست کر دیا، جو اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا، یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ وہ مرد و دخنوں کی تاب نہ لا کر اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور وہیں اس نے دم توڑ دیا اس طرح اس بد بخت کو کیفر کردار پہنچانے کے بعد غازی علم الدین جب دکان سے باہر نکلے تو مقتول کے ملاز میں نے مار دیا، مار دیا کا شور سچانا شروع کر دیا، جس پر قریب کے ایک ہندو دکاندار سیتا رام کے لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے آ کر پیچھے سے اس نوجوان غازی کو کپڑا لیا، جس پر علم الدین بنے کہا:

آج میں نے اپنے رسول ﷺ کا بدلہ لے لیا آج میں نے اپنے  
رسول ﷺ کا بدلہ لے لیا۔“

اس عرصہ میں پولیس بھی جائے واردات پر پہنچ گئی جس نے غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا اور ۱۰ اپریل ۱۹۲۹ء کو مسٹر لوکیس ایڈیشنل محسٹریٹ لاہور کی عدالت میں علم الدین کے خلاف زیر دفعہ ۳۰۲ تعریفات ہند مقدمہ قتل کی کارروائی شروع ہوئی۔

مقدمہ کی ساعت کے دوران علم الدین کے چہرے پر معصوم مسکراہست کھیلتی رہی، شہادت قلم بند ہونے کے بعد سرسری بحث کے بعد مقدمہ سیشن کے پرداہوا، سیشن کورٹ نے ۲۲ مئی ۱۹۲۹ء کو سزاۓ موت کا فیصلہ سنایا اور مشحوب ضابطہ توہین کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھجوائی گئی والدین کے حکم کی تعییں میں علم الدین کی جانب سے بھی اس فیصلہ کے خلاف اپیل دائر کی گئی جس کی پیروی اس وقت کے چوتھی کے قانون دان قائد اعظم محمد علی جناح نے کی قائد اعظم کی بحث کا سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ راج پال نے ”رنگیلا رسول“ جیسی قابل اعتراض کتاب شائع کر کے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا چونکہ یہ کتاب اشتعال انگیزی کا سبب بنی اس لیے ملزم نے قتل عمر کا ارتکاب نہیں کیا الہذا اسے سزاۓ موت نہیں دی جاسکتی اس کے جواب میں وکیل سرکار رام لال نے من جملہ دیگر دلائل کے یہ موقف اختیار کیا کہ پیغمبر اسلام کی اہانت واقعی افسوس ناک بات ہے لیکن تعریفات ہند میں اس جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں اس لیے مقتول نے کوئی خلاف قانون حرکت نہیں

کی تھی چنانچہ ملزم کا یہ فعل اشتعال انگیزی کی تعریف میں نہیں آتا اور اس نے سیش کو رث کی سزا موت کا فیصلہ بحال رکھا، جب یہ فیصلہ غازی علم الدین کو سنایا گیا تو وہ مارے خوشی کے چیخ اٹھے اور کہا:

”اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نصیبی ہو گی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے۔“

جب ان کا غمگسار دوست ”شیدا“ ان سے ملاقات کے لیے میانوالی جیل پہنچا تو اسے غمگین دیکھ کر علم الدین نے کہا:

”یار آج تجھے تو میری طرح خوش ہونا چاہیے اپنے رسول کے نام پر کٹ مرنا، ہی ایک مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں سے اپنے اس حقیر بندے کے ہاتھوں اس ناپاک شیطان کو ختم کرایا اور دیکھو انہوں موسِ رسالت پر قربان ہونے کی میری دلی مراد بھی پوری ہو رہی ہے اس لیے تمام مسلمان بھائیوں تک میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ میری موت پر غم نہ کریں بلکہ میرے لیے وعاء خیر کریں۔“

والدین اور عزیز واقارب سے آخری ملاقات کے موقع پر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگے:

”ماں دیکھ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت کی موت مل رہی ہے مجھے تو ہنسی و خوشی رخصت کرنا چاہیے۔“

پھر علم الدین نے پیالہ سے پانی پیا اور اسی پیالہ سے اپنے عزیزوں اور والد طالع مند کو پانی پلا کر پوچھا کہ: انہیں بھی اس کی ٹھنڈک پہنچی ہے سب نے جب اثبات میں جواب دیا تو کہنے لگے: مجھے جگر تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے پھر ان سب سے کہا کہ: کوئی ان کی موت پر آنسونہ بھائے ورنہ انہیں اس سے تکلیف ہوگی۔“

جیل کے حکام کو وصیت نامہ میں اپنے عزیزوں کے لیے یہ بات بطور خاص لکھوائی کرنا:

”ان کے پھانسی پر چڑھنے سے وہ بخشنے نہیں جائیں گے بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حق دار ہو گا اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں اور شرع محمدی ﷺ پر قائم رہیں۔“

انجام کار ۳۱/اکتوبر ۱۹۲۹ء کو وہ دن آپنچا جس کے لیے علم الدین کی جان بے تاب تھی رات اس جوان شب زندہ دار نے ذکر الہی اور تجدید میں گزاری اور طلوع سحر پر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اجل مسٹریٹ، داروغہ جیل اور مسلح سپاہیوں کے ہمراہ استقبال کے لیے کوٹھڑی کے دروازے پر موجود تھا، مسٹریٹ نے اس مرد غازی سے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش، تو کہا صرف دور کعت نماز شکرانہ کی مہلت، اجازت ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد خوشی کے عالم میں وہ ان کے ساتھ سوئے دار چل پڑے، اس وقت جیل کے قیدی اپنی اپنی کوٹھڑیوں اور بارکوں میں اس فدائی رسول کی آخری جھلک دیکھنے

کے لیے تعظیماً ایستادہ کھڑے تھے رفیقان زمداں کو الوداع اور سلام آخر کہتے ہوئے مقتل میں پہنچ کر جب تختہ دار کو دیکھا تو فرط مسرت سے جھوم اٹھے پھر ساعت سعید کو قریب دیکھ کر تیزی سے تختہ دار کی طرف بڑھے اور شوق میں چاہا کہ پھانسی کے پھندے کو جو وصال کا مژدہ جان فزا لے کر نمودار ہوا تھا خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیں لیکن اسے خلاف شریعت جان کر فرار ک گئے اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا:

”لوگو! گواہ رہنا میں نے ہی راج پال کو حرمت رسول ﷺ کی خاطر قتل کیا تھا اور آج اپنے نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی خاطرا پنی جان شمار کر رہا ہوں۔“

یہ کہتے ہوئے اس نوجوان پر وانہ نبوت نے اپنی جان عزیز ناموں مصطفیٰ ﷺ پر چھاور کر دی جیل کے حکام نے اپنے افسران بالا کی ایما پر علم الدین شہید کی نگش کو ان کے والد اور عزیز واقارب اور سینکڑوں مسلمانوں کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا جو جیل سے باہر اسے لے جانے کے لیے منتظر کھڑے تھے اس بے تدبیری کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔ لیکن نقض امن کے اندر یہ کے پیش نظر جیل کے کارندوں نے حکومت کی خفیہ ہدایات پر شہید نبوت کی لاش نہایت خاموشی کے ساتھ عجلت میں جیل کے احاطہ میں عام قیدیوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتا لیں شروع ہوئیں، کاروبار معطل ہو گیا، برہمنہ پا اور برہمنہ سرمانی جلوں نکلنے لگے اور مسلمانوں میں

شدید ہیجان پیدا ہو گیا اس پر اکابرین وقت جن میں علامہ اقبال پیش پیش تھے سر محمد شفیع، جناب محسن شاہ والد محترم جناب جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ چیف جسٹس پاکستان اور دوسرے قائدین کے ہمراہ گورنر سے ملے اور اپنے جوان سال شہید کی لاش مسلمانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جو اس یقین دہانی پر کہ وہ امن عامہ برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے حکومت نعش ان کے حوالہ کرنے پر رضا مند ہو گئی چنانچہ تدبیح کے تیر ہویں دن مسلمان مجسٹریٹ اور میونپل کمشنروں کی موجودگی میں شہید کی میت قبر سے نکالی گئی یعنی شاہدؤں کا بیان ہے کہ کئی دن گزر جانے کے باوجود لاش صحیح اور سالم حالت میں موجود تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آنکھ لگی ہے۔

۱۲/ نومبر ۱۹۲۹ء کو سارے شہر اور اس کے گرد و نواح سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا ایک سیل بے پناہ فدائی رسول ﷺ کے استقبال کے لیے روائی دوال تھا مسجد وزیر خاں کے خطیب مولانا محمد مشس الدین نے نماز جنازہ پڑھائی، مولانا ظفر علی خان نے اس شہید رسالت کی لحد میں تدبیح سے قبل اتر کر کہا: ”کاش! یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی“ شہید کے جسم کو اشکبار آنکھوں سے علامہ اقبال جیسے شیدائی رسول ﷺ نے قبر میں اتارا، جس پر علامہ کی زبان سے بے اختیار نکل گیا“ یہ جوان ہم سب پڑھ لکھوں سے بازی لے گیا۔“

### غازی عبدالقیوم شہید اور تھورام کا قتل

غازی عبدالقیوم کا واقعہ شہادت بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے اس نوجوان مرد مجاہد کا تعلق غازی آباد ضلع ہزارہ کے ایک غریب گھرانے سے تھا

لیکن کے خبر تھی کہ ایک دن تخت ہزارہ کی شہنشیبی سے بھی اونچا مرگ باشرف کا رتبہ شہادت اسے نصیب ہو گا، اپنے گاؤں سے وہ تلاش روزگار میں کراچی آیا، جہاں سے رزق حلال کے لیے گھوڑا گاڑی مل گئی جس کی آمدن سے وہ اپنی بوڑھی ماں بیوہ بہن اور ضعیف پیچا اور نوبیا ہتھا بیوی کی کفالت کر رہا تھا، نماز فجر اور عشاء کی نماز وہ اپنے محلہ میں پڑھا کرتا تھا، ایک روز امام مسجد نے اہل مسجد کو اشکبار آنکھوں سے بتایا کہ ایک خبیث ہندو نخوراں نے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے، غازی عبدالقيوم نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھا اور اس کے تن بدن میں اک آگ سی لگ گئی اسی وقت اس نے صحن مسجد میں اپنے رب سے عہد کیا کہ وہ اس کا فریمینے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔

نخوراں آریہ سماجی ہندو تھا، جس نے ۱۹۳۴ء میں ”ہسٹری آف اسلام“ نامی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کو ہدف تنقید و ملامت بنایا اور شان رسالت میں گستاخانہ اور تو ہیں آمیز الفاظ استعمال کئے تھے، جس سے مسلمانوں میں یہ جان پیدا ہوا اور سارے شہر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی حکومت نے نقضِ امن کے اندریشہ سے طزم کے خلاف فوج داری مقدمہ قائم کر کے اسے ایک سال قید اور جرمانہ کی سزا دی لیکن مارچ ۱۹۳۴ء میں اس فیصلہ کے خلاف اپیل پر کراچی کے جوڈیشل کمشنر نے اس کی عبوری ضمانت منظور کر لی نخوراں کا مقدمہ ساعت کے لیے جس دن سندھ چیف کورٹ کے دو انگریزی ججوں کی بیانی کے سامنے پیش ہونا تھا اس دن نخوراں اپنے وکلاء اور ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا کورٹ روم میں داخل ہوا عدالت کے باہر بیٹھا اور مسلمان بڑی تعداد میں فیصلہ سننے کے لیے کھڑے تھے مقدمہ کی

سماعت سے کچھ دیر قبل غازی عبد القیوم کمرہ عدالت میں اس ہندو مصنف نخورام کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے شکار پر نظریں جمائے بیٹھا تھا موقع پاتے ہی اپنے نیفہ میں چھپا ہوا تیز دھار نخبر نکال کر عقاب کی طرح وہ اس پر جھپٹا اور اس ملعون کے پیٹ میں نخبر جھوک کر اس کی آنسیں باہر نکال دین نخورام منہ کے بل زمین پر گر پڑا تو اس خیال سے کہ کہیں وہ زندہ فتح نہ جائے اس نے پوری قوت سے ایک اور دار اس کی گردان پر کیا اور اس کی شرگ کاٹ دی اس طرح اس خبیث کا کام تمام کرنے کے بعد نہایت اطمینان اور سکون سے اس نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ عدالت میں اس واقعہ سے بھلڈر مج گئی اور نجح بھی اس اچانک واردات سے خوفزدہ اور سراسیمہ ہو گئے عبد القیوم کے مقدمہ قتل کے دوران جب ملزم کا بیان قلم بند کرتے ہوئے ایک انگریز نجح نے اس مرد غازی سے دریافت کیا کہ اسے اس بھری عدالت میں اس طرح واردات کی جرأت کیسی ہوئی؟ تو اس نے عدالت میں آؤیزاں جارج چشم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

”تم اپنے بادشاہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنے دین اور دنیا کے شہنشاہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کیسے معاف کر سکتے ہیں، اس موزی کو ہلاک کرنے کے بعد نہایت حقارت کے ساتھ اس کی لاش پر تھوکتے ہوئے اس نے کہا تھا:

”اس خزیر کے بچے نے میرے رسول ﷺ کی توہین کی تھی اس لئے میں نے اس قتل کیا ہے۔“

اس نے اپنی طرف سے وکیل صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔

اقبال جرم پر سیشن کورٹ سے غازی عبدالقیوم کو سزاۓ موت سنائی گئی تو وہ نوجوان مردِ مجاهد اپنی خوشی اور سرست ضبط نہ کر سکا اور بے اختیار اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکی صدابند ہوئی، مسلمانوں نے جب اس فیصلہ کے خلاف اپیل کرنا پاہی تو اس نے ان سب کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا:

”آپ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔“

اور وہ اس شعر کی محسم تصویر بنا ہوا تھا:

دل پر لیا ہے داغِ عشق کھو کے بھاری زندگی  
اک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹادیا

فیصلہ جب توثیق کے لیے عدالت عالیہ میں سپرد ہوا اور اس مردِ غازی کی خواہش کے خلاف قانون کی توضیح اور تشریع کے لیے اپیل دائر کر دی گئی تو اپیل کی ساعت کے دوران ہر پیشی پر اس غازی کے دیدار کے لیے مسلمانوں کا بے پناہ ہجوم موجود ہوتا، جو اس پر گل پاشی کیا کرتا تھا، بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اسے بھی دوسرے غازیان ملت کی طرح سزاۓ موت سنائی گئی جس کے لیے وہ بے چین اور مضطرب رہتا تھا اور یہی پروانہ موت اس کے لیے حیات جاوید لے کر آیا جب سزاۓ موت اس کو سنائی گئی تو اس نے بجھوں سے مخاطب ہو کر کہا:

”مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے کہ میرے ہاتھوں وہ خبیث جہنم رسید ہوا اور میرے رب نے مجھے شہادت جیسی نعمت سے سرفراز کیا، یہ

ایک جان کیا چیز ہے اگر ایسی ہزاروں جانیں بھی ہوں تو وہ سب  
میرے ناموں رسالت پر قربان ہیں۔“

اس طرح اس مرد غازی کے لیے جو کچھ عرصہ قبل عروس نوبیاہ کر لایا تھا،  
آج ان شاء اللہ حورانِ جنت درہائے فردوس میں اس کے استقبال کے لیے  
کھڑی ہوں گی۔ یہ بھی ایک عاشق کا جنازہ تھا اس لیے بڑی دھوم سے نکلا اور  
ہزاروں مسلمان جب میوہ شاہ کے قبرستان اس شہید وفا کے جنازے کو لے  
جا رہے تھے، ایسے میں حکومت افرنگ کے فرعون مزاج فوجوں نے مُحَاجَان  
ناموں ﷺ کے اس ہجوم پر اچانک گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں  
سینکڑوں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے، معصوم عورتیں اور بچے جو مکانوں کی  
چھتوں سے اس کا جنازہ دیکھ رہے تھے ان کی شقاوت کا نشانہ بننے اور اس دن وہ  
سب شہید ان ناموں رسالت ﷺ اس فدائی رسول ﷺ کے ساتھ ان شاء  
اللہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔

### غازی محمد صدیق شہید

غازی محمد صدیق فیروز پور ضلع قصور کے ایک دینی گھرانے  
میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا مان نے بڑے لاڈ پیار  
سے بیٹے کی پرورش کی اور ساتھ ساتھ صحیح تربیت کی تھی، ۱۹۳۲ء میں یہ نو خیز پچھے  
جب میں برس کا ہوا تو اسے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی  
اور حکم ہوا کہ قصور کے ایک دریہ دہن گستاخ پالالیل زرگر کا منہ بند کیا جائے۔ یہ  
بشارت ملتے ہی نوجوان غازی تڑپ کر بیدار ہوا تو اس کے ساتھ اس کا مقدر بھی

جاگ اٹھا اس نے ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو ماں نے خوشی سے لخت جگر کا ماتھا چو ما اور شہادت کی الفت کی طرف اسے روانہ کیا قصور پہنچ کر اس مرد غازی نے اس گستاخ رسول پالا مل کو راستہ ہی میں دبوچ لیا، اسے پچھاڑ کر اس کے سینہ پر سوار ہو گئے اور تیز دھار دار آله سے پے در پے وار کر کے اس مودی کو ہلاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہونے کے بجائے قریب ہی کی مسجد میں جا کر سب سے پہلے نماز شکرانہ ادا کی اور پھر مسجد کی سیڑھیوں پر اس شان اور تمکنت کے ساتھ بیٹھ گئے کہ کسی ہندو کو ان کے پاس آنے کی جرأت نہ ہو سکی، فیروز مندی ان کے قدم چوم رہی تھی اور فی الحقیقت اس سے بڑھ کر اور کیا نمایاں کام ہو سکتا تھا جس پر سرست اور شادمانی بھی ناز کرے کہ ایک شاتم رسول ﷺ ان کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا حسب معمول انگریز کا قانون حرکت میں آیا اور مرد مجاہد کا مقدمہ سیشن کے سپرد ہوا، غازی موصوف کی جانب سے میاں عبدالعزیز مالوڈہ اور نو مسلم بیرون شرخالد لطیف گابانے مقدمہ کی پیروی کی، لیکن چونکہ آپ نے عدالت کے رو برو جرئت کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا، اس لیے سزاۓ موت سنائی گئی۔

آفرین ہے اس ماں پر جس نے ایسے پیکر جرأت واپس کو جنم دیا اور آفرین ہے اس نوجوان مرد غازی پر جو اپنے ناموں رسالت کے نام پر قربان ہو گیا یہ فیصلہ سن کر ماں نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کا ماتھا چو ما اور کہا:

”یہ ایک بیٹا تو کیا ایسے میں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو ناموں رسالت ﷺ کے نام پر قربان کر دیتی۔“

بیٹے نے بھی پہلی کہا:

”یہ ایک جان کیا چیز ہے ایسی ہزاروں جانیں بھی ناموسِ رسالت  
ﷺ پر شار ہیں۔“

سبحان اللہ !!

### غازی عبد اللہ شہید

یہ بھی تقسیم ہند سے قبل غالباً ۱۹۳۸ء کا واقعہ ہے ایک بدجنت سکھ چلکل  
نگھ شیخوپورہ کے گرد نواح میں نبی اکرم ﷺ کے خلاف بدگوئی کر کے اپنے  
نجٹ باطن کا اظہار کرتا پھر تھا، قصور کے رہنے والے ایک جیا لے جوان  
عبد اللہ کو سر کار رسالت ماب ﷺ نے خواب میں حکم دیا کہ وہ اس گستاخ کا  
منہ بند کرے۔ چنانچہ کسی سے اس خواب کا ذکر کئے بغیر وہ شوریدہ سرآتش بجاں  
اٹھ کھڑا ہوا اور اس مردود کی تلاش میں نکل پڑا معلوم ہوا کہ وہ خبیث وارث شاہ  
کے گاؤں جنڈیالہ شیرخان میں رہتا ہے جو اس وقت سکھوں کا گڑھ تھا بستی کے  
قریب پہنچ کر مزید دریافت پر پتا چلا کہ وہ اپنے کنویں پر بیٹھا کسی کام میں  
مشغول ہے اس کے قریب ہی سکھوں کا جوچہ معروف گفتگو تھا۔ غازی عبد اللہ  
نے ایک نظر میں اس دشمن دین کو پہچان لیا انہیں محسوس ہوا کہ ان کے جسم  
میں غیر معمولی طاقت بھلی بن کر دوز رہی ہے، چلکل نگھ پروہ جھپٹ کر حملہ آور  
ہوئے اور اسے پچاڑ کر اس کے سینہ میں چڑھ بیٹھے اور پوری قوت سے اس کی  
شہرگ کاٹ دی اور اس کا سترن سے جدا کر دیا۔ اس ناگہانی حملہ کو دیکھ کر پاس  
ہی بیٹھے ہوئے سکھ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن یہ مرد غازی اپنے

رسول ﷺ کے فرمان کی تعمیل کے بعد اس مردود کے لاشہ سے اٹھا اور وہیں رب کے حضور بحود ہوا کہ اس نے اس مہم کو کامیاب فرمایا کہ سرفرازی بخشی اور سرخرو کیا۔

موقع واردات پر جب پولیس پہنچی تو اس مرد مجاهد کو وہیں پر موجود پایا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، پولیس نے گرفتار کر کے دلی مراد پوری کر دی، شیخوپورہ کے معروف وکیل ملک انور مرثوم نے مقدمہ کی پیروی کی، لیکن چونکہ غازی عبداللہ نے عدالت کے رو برو اعتراف جرم کر لیا تھا، اس لیے سزا نے موت سنائی گئی تو ایک مرتبہ پھر سجدہ شکر بجالائے کہ انہیں بھی شہید ان رسالت کی صفائی گلے رہی ہے جس پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے۔

### غازی عبدالرشید شہید

غازی عبدالرشید شہید کا نام نامی بھی سرفوشان ملت میں ہمیشہ نمایاں رہے گا جس نے آریہ سماج کے بانی سوامی دیانتند سرسوتی کے چیلے سوامی شردھا نند جیسے خبیث شاتم رسول کو دہلی میں موت کے گھاث اتارا اور راہ محبت رسول میں اپنی جان نثار کر کے بارگاہ الہی میں سرخرو اور سرفراز ہوا۔

[راج پال سے یہاں تک تمام واقعات "ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت ﷺ" سے بعد تریم اخذ کئے ہیں]

## توہین صحابہ عَنْهُمْ کی شرعی سزا

تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا استثناء جنتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے مشرف ہیں۔ محمد بن کعب قرظی رضویؑ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی [اس کی کیا دلیل ہے] انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو "السَّابِقُونَ الْأُولُونَ" اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بلا کسی شرط کے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ارشاد فرمایا ہے۔ البته تابعین کے معاملہ میں اتباع بحسان کی شرط لگائی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید و شرط کے سب بلا استثناء رضوان اللہی سے سرفراز ہیں۔

تفیر مظہری میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے۔

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتُحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلُّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾۔ [سورہ حمید: ۱۰]

اس آیت میں پوری صراحة سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام عَنِّ النَّبِيِّ أَوْلَىٰ نَبِيٍّ ہوں یا آخرین سب سے اللہ تعالیٰ نے ”حُسْنَى“ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔

[الترمذی ، کتاب المناقب ، باب ما جاء فی فضل من رأى النبي ﷺ رقم (۳۸۵۸)]

جب آیات اور احادیث رسول ﷺ میں صحابہ کرام کا جنتی ہوتا اور رضا الہی سے سرفراز ہونا اظہر ممن الشتم ہے تو ایسی پاک باز ہستیوں کی توہین اور ان کو سب و شتم کرنا اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا حرام ، اکبر الکبار اور فحش الفواحش میں سے ہے جس کی اسلام میں شگین سزا مقرر کی گئی ہے چنانچہ خاتمة الحفاظ ابن حجر فتح الباری [۷/۳۶] میں فرماتے ہیں :

اختلف فی سات الصحابی فقال عياض ذهب الجمهور الى انه يعزز وعن بعض المالکية يقتل وخص بعض الشافعية ذلك بالشیخین والحسین فحكى القاضی حسین فی ذلك وجهین وقواه السبکی فی حق من كفر الشیخین وكذا من كفر من صرح النبي ﷺ بایمانه او تبشيره بالجنة اذا توادر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تکذیب رسول الله ﷺ .

صحابہ کو گالی دینے والے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جمہور امت کا قول ہے کہ اسے شگین سزا دی جائے [لیکن قتل

کی سزا نہ دی جائے] اور بعض مالکی علماء قتل کی سزا کے حق میں ہیں جبکہ بعض شافعی علماء فرماتے ہیں کہ صرف حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت حسنؓ اور حسینؑ کی توہین کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے اور قاضی حسین نے اس بارے میں دو وجہات بیان کی ہیں اور علامہ مکمل فرماتے ہیں کہ جس نے حضرات شیخین اور عشرہ مبشرہ یا وہ خوش نصیب حضرات جن کے ایمان کی آپ ﷺ نے گواہی دی ہے ایسے لوگوں کے بارے سب وثیق کیا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے کیونکہ اس میں تکذیب رسول ﷺ پائی جاتی ہے۔

امام نوووی فرماتے ہیں:

اعلم ان سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات  
سواء من لا يرى الفتنة منهم وغيره لأنهم مجتهدون في  
تلك الحروب ومتاؤلون قال القاضي وسب احدهم من  
المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور انه يعزز  
ولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل.

[شرح مسلم ۹۳/۱۶]

سو معلوم ہوتا چاہیے کہ صحابہ کرام کو برآ بھلا کہنا فواحش محمرات میں سے ہے اگرچہ وہ اختلافات کے فتنوں میں کیوں نہ بتلا ہوئے ہوں کیونکہ وہ مجتهد تھے اور ہر ایک اپنی جگہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو برآ بھلا کہنا کبائر معاصی میں سے ہے ہمارا اور جمہور امت کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کوئی دوسرا شفیعین سزا دی جائے اور بعض مالکی علماء قتل کے بھی قائل ہیں۔

خلاصہ:-

مذکورہ دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توہین صحابہ کے مرتكب کی سزا  
کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔

۱:- قتل کے بغیر سنگین قسم کی سزا

۲:- قتل

۳:- شیخین و حسین اور عشرہ مبشرہ اور وہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہی خود  
رسول اللہ ﷺ نے دی ہے ایسے حضرات کی توہین کی سزا قتل ہے باقی کی توہین  
کے لیے سنگین سزا ہے مگر قتل نہیں۔

اب ان اقوال کے مختصر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

## مذکورہ اقوال کے دلائل

پہلا قول:-

پہلا قول جمہور علماء امت کا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ غیرنبی کے  
دشام دہنندہ کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کوئی دوسری عبرتاک سزا دی جائے۔ ان کا  
استدلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ہے جس کو سابق ہم ذکر  
کرچکے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نالائق گفتگو کی  
اور خخت سست الفاظ کہے اور ایک روایت ہے کہ اس نے آپ کو گالی دی تو  
حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ صحابی نے حضرت صدیق اکبر سے اس کی قتل کرنے کی

اجازت چاہی تو حضرت صدیق اکبرؓ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ نبی کے بعد کسی کو قتل کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ [ابوداؤد کتاب الحدود ۲/ ۲۵۳]

نیز اس لیے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے مہاجر بن ابی امیہ کو لکھا تھا کہ انہیاء کی حد دیگر حد و شرعیہ کی طرح نہیں۔

پھر قتل کی سزا اس لیے بھی نہیں دی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اہل ایمان کو ایذا دینے والوں میں فرق و امتیاز رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کو ایذا دینے والوں کو دینا و آخرت میں ملعون قرار دیا ہے اور رسول کو ایذا دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ

﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّأَثْمًا مُّبِينًا﴾۔ [النساء: ۱۱۲]

”اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کیا۔“

ظاہر ہے کہ مطلق بہتان اور گناہ کہ وجہ سے قتل کی سزا نہیں دی جاسکتی بلکہ اس سے سزا فی الجملۃ واجب ہوتی ہے لہذا اسے مطلق سزادی جائے گی جس سے قتل کا جواز لازم نہیں آتا۔

نیز قتل کی سزا اس لیے بھی نہیں دی جاسکتی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

کسی مسلمان مرد کا خون بہانا جائز نہیں جو کلمہ طیبہ کی شہادت دیتا ہو جب تک وہ تین باتوں میں سے کسی ایک کا مرتكب نہ ہو اور وہ یہ

ہیں:

۱: ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا

۲: شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا  
۳: وہ کسی کو قتل کرے تو مقتول کے عوض اسے قتل کیا جائے گا۔

اور غیر انبياء کو مطلق گالی دینے سے اس کا کفر لازم نہیں آتا اس لیے کہ  
عہد رسالت میں لوگ ایک دوسرے کو سخت سنت الفاظ کہہ لیا کرتے تھے مگر اس  
کی بنا پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ نیز اس لیے کہ کسی خاص صحابی پر علی تعین  
ایمان لانا واجب نہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کو گالی دینے سے یہ لازم نہیں  
آتا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور یوم  
آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ [الصادر المسنون ص ۵۷۸]

## دوسرائقول:

صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ  
اسے توہین رسالت کے مرتكب کی طرح قتل کر دیا جائے جس کی دلیل یہ آیت  
ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّ أَعْذَابَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ  
يَنْهَمُ﴾۔ [الفتح: ۲۹]

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت  
اور آپس میں رحم دل ہیں۔

اس آیت کے الفاظ **لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ** تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو  
غضہ دلا یا جائے اور جب کفار صحابہ کی وجہ سے غصہ میں آتے ہیں تو جس نے  
صحابہ **يَنْهَمُ** کو نار ارض کیا گویا وہ بھی کفار کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہو گیا

جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوایا کیا اور ان کے کفر کی بنا پر ان کو سرگوں کیا اور کفار کے ساتھ ان کے غصہ میں جس کی وجہ سے ان کو رسوایا گیا، ہی شخص شریک ہو گا جو کافر ہو اس لیے کہ مومن کفر کی وجہ سے ذلیل و رسوانہیں کیا جاتا۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ **لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ** میں حکم کو ایسے وصف کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے جو مشتق ہے اور مناسب بھی ہے اس لیے کہ کفر اس لائق ہے کہ اس کے حامل کو غصہ دلایا جائے۔ جب کفر ہی اس بات کا موجب ہو کہ اللہ اس کے حامل کو محمد ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ سے غصہ دلائے تو جس کو اللہ اصحاب محمد ﷺ کی وجہ سے غصہ دلائے اس کے حق میں اس کا موجب پایا گیا اور وہ کفر ہے امام عبد اللہ بن اور لیں الاودی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ شیعہ کہیں کفار کے مثال نہ ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ** تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے اور یہی معنی ہیں امام احمدؓ کے اس قول کے کہ میں ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی اسی قبیل سے ہے کہ جس نے ان کے ساتھ عداوت رکھی اور جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذاء دی۔ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اللہ تعالیٰ اس کے فرائض اور نوافل کو قبول نہیں کرے گا۔

ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ایذاء کفر ہے اور قتل کا

موجب بھی جیسا کہ پہلے ہم تفصیل سے لکھے ہیں اور اسی سے اس بات کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ حصول صحبت سے پہلے اور حصول صحبت کے بعد صحابہ کو گالی دینے میں کیا فرق ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک آدمی اسلام کا اظہار کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ کہیں منافق یا مرتد نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص آپ ﷺ کی صحبت پر قائم ہوتے ہوئے فوت ہو جائے اور وہ نفاق سے متعلم نہ ہو تو اس کو ایذا دینا اسی ہستی کو ایذا دینا ہے جس کی صحبت کا شرف اسے حاصل رہا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”اعتبروا الناس باخذ انہم“ ”لوگوں کو ان کے احباب پر قیاس کیا کرو۔ کسی شاعر کا قول ہے:

عَنِ الْمُرْءِ لَا تَسْبِلُ وَسْلُ عَنْ قَرِيبِهِ

فَكُلُّ قَرِيبٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي

آدمی کے بارے میں مت پوچھ بلکہ اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھاں لیے کہ ہر ساتھی اپنے رفیق کی پیروی کرتا ہے۔

[الصارم المسلول ص ۵۸۰]

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آخری زمانہ میں ایک قوم نمودار ہو گی جس کا ایک لقب ہو گا۔ ان کو رافضہ کہا جائے گا وہ اسی سے پہچانے جائیں گے وہ اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کریں گے حالانکہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے والے ہوں گے۔ تم جہاں کہیں اپنیں پاؤ قتل کر دو اس لیے کہ وہ مشرک ہوں گے۔

[الصارم المسلول]

## تیرا قول:

تیرے قول میں جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس پر اس قول والوں نے کوئی دلیل ذکر نہیں کی البتہ شیخین، حسین، عشرہ مبشرہ وغیرہ صحابہ کی چونکہ ایک امتیازی شان ہے اور ان کا ایک خاص مقام ہے اس لیے کچھ لوگوں نے ان حضرات کی توہین کو توہین رسالت کے برابر قرار دے کر اس کی سزا بھی قتل ہی تجویز کی ہے۔

## صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ

صحابہ کرام جس مقدس گروہ کا نام ہے وہ امت کے عام افراد و رجال کی طرح نہیں وہ رسول اللہ ﷺ اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص مقام اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام و امتیاز ان کو قرآن و سنت کی نصوص و تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے اس امت کا اجماع ہے۔ اب ذیل میں چند ایک وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں اس مقدس اور پاک بازگروہ کا مرتبہ اور شان بیان کی گئی ہے۔

## آیات قرآنی

[۱]

﴿وَالشِّقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ﴾

الْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْذَلَهُمْ  
جَنَّتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ۔) [سورہ توبہ: ۱۰۰]

”وَهُمْ مُهَاجِرُونَ وَالنَّصَارَى جَهَنَّمُو نَسْبٍ سَبَقَتْ دُعَاتُ إِيمَانٍ پَرِلَيْكَ  
کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان  
کے پیچے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے  
اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر کے ہیں جن کے نیچے<sup>۱</sup>  
سے نہریں بہتی ہوں گی۔“

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو طبقے بیان فرمائے ہیں  
ایک سابقین اولین کا دوسرے بعد میں ایمان لانے والوں کا۔ اور دونوں طبقوں  
کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی  
ہیں ان کے لیے جنت کا مقام و دوام مقرر ہے جس میں تمام صحابہ کرام ﷺ  
داخل ہیں۔

پھر مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کون لوگ ہیں اس کی تفسیر  
میں ابن کثیر نے تفسیر میں اور ابن عبد البر نے مقدمہ استیغاب میں سندوں کے  
ساتھ دونوں قول نقل کئے ہیں ایک یہ کہ سابقین اولین وہ حضرات ہیں  
جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو۔ یہ  
قول ابو موسیٰ الشعرا، سعید بن میتib، ابن سیرین، حسن بصری کا ہے۔

[ابن کثیر]

اس کا حاصل یہ ہے کہ تحویل قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف  
جو بھرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے جو لوگ مشرف

بسلام ہر کر شرف صحابیت حاصل کر چکے ہیں وہ سابقین اولین ہیں۔

دوسرًا قول یہ ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان یعنی واقعہ حدیبیہ واقع  
لئے ہیں شریک ہوئے ہیں وہ سابقین اولین میں سے ہیں یہ قول امام شعبی کا ہے۔

[ابن کثیر، استیعاب]

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

يَا وَيْلٌ مِّنْ أَبْغَضِهِمْ أَوْ سَبِّهِمْ أَوْ سَبَّ بَعْضَهُمْ [إِلَى قَوْلِهِ]  
فَإِنَّ هُوَلَاءَ مِنَ الْأَيْمَانَ بِالْقُرْآنِ إِذْ يَسْبُونَ مِنْ رَضْيِ اللَّهِ  
عَنْهُمْ.

[ابن کثیر ۴۴۰/۳]

عذاب ایم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حضرات سے یا ان میں  
سے بعض سے بعض رکھے یا ان کو برآ کھئے ایسے لوگوں کو ایمان  
بالقرآن سے کیا واسطہ جو ان لوگوں کو برآ کہتے ہیں جن سے اللہ نے  
راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔

علامہ ابن عبد البر مذکورہ آیت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخُطْ عَنْهِ إِبْدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
تَعَالَى.

[الاستیعاب ص ۴ ج ۱]

اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہو گا ان شاء اللہ۔

مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب اگلی پچھلی چیزوں کا علم ہے وہ  
راضی اس شخص سے ہو سکتے ہیں جو آئندہ زمانے میں بھی رضا کے خلاف کام  
کرنے والا نہیں ہے اس لیے کسی کے واسطے رضاۓ الہی کا اعلان اس کی  
ضمانت ہے کہ اس کا خاتمه اور انجام بھی اسی حالت صالحہ پر ہو گا۔ اس سے رضا

الہی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہیں ہوگا یہی مضمون شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں اور سفاریتی نے شرح درہ مضیہ میں بھی لکھا ہے اس سے ان مطہدین کے شبہ کا ازالہ خود بخود ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ اعلانات اس وقت کے ہیں جبکہ ان کے حالات درست تھے بعد میں معاذ اللہ ان کے حالات خراب ہو گئے اس لیے وہ اس انعام و اکرام کے مستحق نہیں رہے نعوذ باللہ منہ۔ کیونکہ اس سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بوجہ انجام سے بے خبری کے راضی ہو گئے تھے بعد میں یہ حکم بدل گیا نعوذ باللہ منہ۔

[۳]

**﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَا يَأْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.**

[ سورہ فتح: ۱۸ ]

اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ ﷺ سے بیعت کر رہے تھے۔

یہاں اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگادیئے میں ذرہ برابر تأمل نہ کیا اور رسول کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر دیا۔ وقت تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے صرف چودہ سو

[۱۳۰۰] کی تعداد میں تھے جنگی لباس میں بھی نہ تھے۔ بلکہ احرام کی چادریں  
باندھے ہوئے تھے۔ اپنے رہائشی مقام [مدينه] سے ڈھانی سو میل دور تھے  
اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لاسکتا تھا صرف تیرہ [۱۳] میل کے  
فاصلے پر تھا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اس کے دین کے لیے ان  
لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پر رسول  
اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کم کے لیے ہار جاتی ان کے  
اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیعت کے  
لیے مجبور ہوتے ان کا اس وقت اللہ کے دین کے لیے مارنے پر آمادہ  
ہوجانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور اللہ  
اور رسول ﷺ کی وفاداری میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے  
ان کو یہ سند خوشنودی عطا فرمائی اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہوجانے کے بعد اگر  
کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کا معارضہ ان  
سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ اس پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے ان  
حضرات کو یہ خوشنودی کی سند عطا کی تھی اس وقت تو یہ مخلص تھے مگر بعد میں یہ اللہ  
اور رسول ﷺ سے بے وفا ہو گئے۔ وہ شائد اللہ سے یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ  
اسے یہ آیت نازل کرتے وقت ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی اس لیے محض اس  
وقت کی حالت دیکھ کر اس نے یہ پروانہ نہیں عطا کر دیا اور غالباً اسی بے خبری کی  
بنا پر اسے اپنی کتاب پاک میں درج فرمادیا تاکہ بعد میں بھی جب یہ لوگ بے  
وفا ہو جائیں ان کے بارے میں دنیا یہ آیت پڑھتی رہے اور اس اللہ کے علم  
غیب کی داد دیتی رہے جس نے معاذ اللہ ان بے وفاوں کو یہ پروانہ خوشنودی

مفسر قرآن قاضی شاء اللہ پانی پتی الحججیہ فرماتے ہیں:

اس آیت میں حق تعالیٰ اس بیعت کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعتِ رضوان بھی کہا جاتا ہے اور مقصود اس سے ان شرکاء بیعت کی مدح اور ان کو اس عهد کے پورا کرنے کی تاکید کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ حدیثیہ کے دن ہماری تعداد چودہ سو تھی، ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ** یعنی تم لوگ روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو، اور صحیح مسلم میں ام مبشر سے مرفوعاً روایت ہے کہ: **لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ قَمَنْ بَايِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ** یعنی جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔

[تغیر مظہری ۹/۲۲]

اس نے اس بیعت کا شرکاء کی مثال غزوہ بدرا کی ہے جیسا کہ ان کے متعلق قرآن و حدیث میں رضا الہی اور جنت کی بشارتیں ہیں اسی طرح شرکاء بیعتِ رضوان کے لیے بھی بشارت آئی ہے۔

یہ بشارتیں اس پر شاہد ہیں کہ ان سب حضرت کا خاتمه ایمان اور اعمال صالحہ مرضیہ پر ہو گا کیونکہ رضاۓ الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت دے رہا ہے۔

**صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اس آیت کے خلاف ہے**

جن خیارات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے غفران و مغفرت کا یہ اعلان فرمادیا ہے اگر ان سے کوئی لفڑی یا گناہ ہو ابھی ہے تو یہ آیت اس کی معافی کا

اعلان ہے۔ پھر ان کے ایسے معاملات کو جو مستحسن نہیں ہیں غوفکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بدینکتی اور بظاہر اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت رواضہ کے قول کی واضح تردید ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔

علامہ آلوی بغدادیؒ رضا کے معنی خوشنودی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

لفظ رضا کا استعمال کلامِ عرب میں متعدد صورتوں سے ہوتا ہے کبھی بغیر صیغہ کے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جائے ”رَضِيَتُ زَيْدًا“ اور کبھی ”عن“ اور ”با“ کے ساتھ مثلاً ”رَضِيَتُ زَيْدًا يَا حَسَانِيه“ اور کبھی ”لَام“ کے ساتھ مثلاً ”رَضِيَتُ لَكَ“۔

علماء عرب یہ فرماتے ہیں کہ ”ب“ کے ساتھ استعمال سیمیت کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ باحسانہ کہنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے احسان کی وجہ سے میں خوش ہوا اور جہاں بغیر صیغہ کے استعمال ہو تو محض ذات بحیثیت ذات رضا کے معنی ہوں گے اور جس جگہ ب کا صیغہ اور ذات دونوں کو جمع کیا جائے مثلاً ”رَضِيَتُ بِاللَّهِ زَيْدًا“ تو ذات سے خوشنودی کی نوعیت کو بتانا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ خوشنودی بحیثیت اس کی ربوبیت اور بندگی ہے اور جب ”عن“ کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوگا کہ رضا اور خوشنودی کسی چیز سے واقع ہوئی اور رضا اور خوشنودی کا فشاء کیا ہے تو اس موقع ”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ“ کا عنوان اس پر دلالت کر رہا ہے۔ کہ ان اصحاب رسول اللہ ﷺ سے اللہ کی خوشنودی ان کے ایمان و اخلاص کی وجہ سے واقع ہوئی اور یہی ایمان

و اخلاص اس رضا الحی کا نشانہ بنا جبکہ یہ عمل بیعت ان کے ایمان کامل کے ثبوت پر ظاہر ہو رہا ہے جبکہ اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی تو یہ عنوان بلغ ترین عنوان ہوا بہ نسبت اس کے ”رضی اللہ بیعہم“ کیونکہ اس میں صرف اس عمل پر ہی خوشنودی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کے بالمقابل عمل کو ظرف بنایا گیا اور خوشنودی کا محل صرف صحابہ کی ذات قرار دی گئی اور اس کا نشان کا ایمان و اخلاص بتایا گیا جس کی گواہی دینے والا خود اللہ رب العزت ہواب اس کے بعد ان حضرات میں سے کسی کے بھی ایمان و اخلاص میں شک کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ٹھکرانا ہوگا۔ العیاذ باللہ من العیاذ باللہ۔

[روح المعانی ۱۰۷/۲۶]

[۳]

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ  
بِيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَتَّغَرَّبُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنْرِ السُّجُودِ﴾.

[سورہ فتح: ۲۹]

”محمد ﷺ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب دیکھو گے انہیں روکوں و بجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے بجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔“

عام مفسرین امام قرطبی وغیرہ نے فرمایا کہ ”والَّذِينَ مَعَهُ“ عام ہے اس میں تمام صحابہ کرام کی پوری جماعت داخل ہے اور اس میں تمام صحابہ کرام

کی تتعديل ان کا تزکیہ اور ان کی مدح و شاخود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔

ابو عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت امام مالک کی مجلس میں تھے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کرام ﷺ کو بُرا کہتا تھا۔ امام مالک نے یہ آیت ”لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ“ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے یعنی اس کا ایمان خطرہ میں ہے کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے اور ”الَّذِينَ مَعَهُ“ میں تمام صحابہ کرام کی جماعت بلا کسی استثناء کے داخل ہے۔ [قرطبی ۲۹۶/۱۶]

[۳]

سورہ حشر میں حق تعالیٰ نے عہد رسالت کے تمام موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے تین طبقے کر کے ذکر کیا ہے پہلا مہاجرین کا جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ”أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ یعنی یہی لوگ چیز ہیں۔

دوسرے انصار کا جن کی صفات و فضائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا ”أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ یہی لوگ فلاج پانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آنے والے ہے ان کے بارے میں فرمایا:

»وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَ

لَا خَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَاءً  
لِّلَّذِينَ أَمْنَوْا). [حشر: ۱۰]

”اور وہ لوگ جو بعد میں آئے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروار دگار ہماری بھی مغفرت فرم اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں سے کوئی بغض نہ رکھنا۔“

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہاجرین و انصار صحابہؓ کے لیے استغفار کرنے کا حکم سب مسلمانوں کو دیا ہے اور یہ حکم اس حال میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے باہم جنگ و مقاتله بھی ہو گا علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ کرام سے محبت نہ رکھے اور ان کے لیے دعا نہ کرے۔ [ترطیبی ۱۸/۳۳]

[۵]

»كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ« [سورة آل عمران].  
”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے [تفع او راصلاح] کے لیے پیدا کی گئی ہے۔“

[۶]

»وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا تَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ« [آل عمران: ۱۴۳]

”اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنادیا ہے جو [ہر پہلو سے] نہایت

اعتدال پر ہے تاکہ تم [مخالف] لوگوں کے مقابلہ میں گواہ رہو۔“

ان دونوں آئیوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصدق صحابہ کرام ہیں باقی امت بھی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام کا ان دونوں آئیوں کا صحیح مصدق ہونا باتفاق مفسرین و محدثین ثابت ہے۔ ان میں صحابہ کرام کا نبی ﷺ کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ اور عدل و ثقہ ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ جس کو ابن عبد البر نے الاستیعاب کے مقدمہ اور علامہ سفاری نے شرح عقیدہ الدرہ المضیہ میں اس کو جمہورامت کا مسلک قرار دیا ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام افضل الخلقان ہیں۔

ابراهیم بن سعید جو ہری لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبد العزیز ان دونوں میں سے کون افضل ہے تو انہوں نے کہا ”لَا تَعْدِلُ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَّلَكَ الْجَنَّاتَ أَحَدًا“ [الروضۃ الندبیہ] شرح العقیدہ الواسطیہ لابن تیمیہ ص ۴۵] ہم اصحاب محمد ﷺ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ افضل ہونا تو کجا [مقام صحابہ ص ۳۹]

یہاں یہ بات پھر سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ارشادات اس ذاتِ حق کے ہیں جو سب کو پیدا کرنے اور پیدائش سے پہلے ہر انسان کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم سے اور اچھے برے عمل سے واقف ہے جو اس شخص سے وقوع میں آئیں گے۔ اس نے صحابہ کرام کے معاملے میں جو اپنی رضا کامل اور جنت کی بشارت دی ہے ان سب واقعات و معاملات کو جانتے ہوئے دی ہے جو ان میں سے ہر ایک کو عہد رسالت میں یا اس کے بعد پیش آنے والے تھے۔

حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ”الصارم المسلط علی شاتم الرسول“ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی بندہ سے راضی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ آخر عمر تک موجبات رضا کو پورا کرے گا۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔

## صحابہ کرام کے فضائل احادیث نبویہ میں

یہاں فضائل صحابہ کے بارے میں چند ایک روایات لکھی جاتی ہیں جن میں پوری جماعت صحابہ کے فضائل و خصوصیات کا ذکر ہے۔

ا:- حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

اذا رأيتمُ الَّذِينَ يُسْبِّونَ أَصْحَابَيِ فَقُولُوا لِعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ  
شَرِّكُمْ۔ [الترمذی، کتاب المناقب، باب (۶۰) رقم (۳۸۶۶)]

جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو اللہ کی لعنت ہے تم پر تمہارے شرکی وجہ سے۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں بدتر وہی ہے جو ان کو برا کہنے والا ہے۔ اس حدیث میں صحابی کو برا کہنے والا مستحق لعنت قرار دیا گیا ہے اور لفظ سب عربی زبان کے اعتبار سے صرف فخش گالی ہی کوئی نہیں کہتے بلکہ ہر ایسا کلام جس سے کسی کی تنقیص و توہین یادل آزاری ہوتی ہے وہ لفظ سب میں داخل ہے مذکورہ بالا روایت کو ترمذی کے علاوہ خطیب نے بھی نقل کیا ہے۔

۲:- نیزا ابن عدی نے حضرت عائشہ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ:

إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي أَجْرَوْهُمْ عَلَى أَصْحَابِيْ.

[ابن عدی ۲۷۵۲/۷]

بلاشبہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے بارہ گستاخ ہیں۔

۳:- ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ يَرْفَضُونَ  
الْإِسْلَامَ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ۔ [مرقاۃ: ۱۱/۲۸۰]

”آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ”رافضی“ کہا جائے گا یہ لوگ اسلام کے تارک ہوں گے پس تم ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔“

۴:- ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے۔

وَيَتَّحِلُّونَ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيَسُوْا كَذَلِكَ وَآيَةُ ذَلِكَ  
أَنَّهُمْ يَسْبُوْنَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ۔

[مرقاۃ: ۱۱/۲۸۰ وابن عدی ۵/۱۸۰]

”اور وہ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر نبی ﷺ کو برا کہیں گے۔“

اس دنیا میں ایسے لوگوں کا پیدا ہونا جو بعض جلیل القدر صحابہ کو برا کہتے

ہیں جیسے روافض یا بعض جلیل القدر اہل بیتؑ کے بارے میں برے عقائد و خیالات رکھتے ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں جیسے خوارج، شاہزاد اس میں حکمت ہے کہ جب وہ جلیل القدر ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ان کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہمیشہ جاری رہے تاکہ جنت میں ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہیں اور ان کے دُشمن سخت سے سخت اور زیادہ سے زیادہ عذاب سے دوچار ہوں لہذا ان جلیل القدر ہستیوں کو برا کہنے والے ان کے ثواب کے اضافہ کا سبب بنتے ہیں اور خود اپنے گرد عذاب کا گھیرا سخت سے سخت کرتے جاتے ہیں۔

۵:- عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قآل

رسول اللہ ﷺ لاتسبوا اصحابی فلو ان احد کم انفق

مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه.

[البخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ لو کت ... الخ رقم (۳۶۶۷) مسلم]

کتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رقم (۲۲۲/۲۰۳)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میرے صحابہ کو برانہ کہو حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احمد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک مدیا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“

اس حدیث میں ”تم“ کے ذریعہ پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہے

اور چونکہ نورنبوت نے پہلے ہی یہ دیکھ لیا کہ آگے چل کر میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کربرا جھلا کہیں گے ان کی شان میں گستاخیں کریں گے [جیسا کہ رواض و خوارج سب دشمن کرتے ہیں] اس لیے آپ ﷺ نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں احترام صحابہؓ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے حکم دیا کہ کوئی شخص میرے کسی صحابی کو برانہ کہے۔

”م“ عرب کا ایک پیانہ ہے جو وزن کے لحاظ سے آج کل کے مردوں تقریباً ایک کلو کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث کے اس جز کی مراد ان صحابہ کے بلند و بالا مقام و مرتبہ کا تعین کرنا ہے کہ ان لوگوں کے کمال اخلاص و للہیت کی بنابری ان کا ایک چھوٹا سا نیک عمل اپنے بعد والوں کے اسی طرح کے بڑے سے بڑے عمل پر بھاری ہے مثلاً اگر ان صحابہ میں سے کوئی شخص کلو بھر یا آدھ کلو جو وغيرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس عمل پر ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ان کے بعد والوں کو اس صورت میں بھی نہیں مل سکتا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں احمد پھاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اخلاص و صدق نیت اور جذبہ ایثار و للہیت کا جو کمال ان کے اندر تھا وہ بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ ان کا مال خالص طیب و پاکیزہ ہوتا تھا اور ان کی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کریں لیکن اس کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خوشدنی کے ساتھ خرچ کرتے اور اپنی تمام ضرورتوں پس پشت ڈال دیتے یہ تو ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اجر کا ذکر ہے اسی پر قیاس کر کے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی

حالات میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے اور اللہ کے رسول ﷺ کا پیغام پہنچانے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کے جن سخت مراحل کو طے کیا یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذر انہ پیش کیا اس کی بنا پر ان کو کیا اجر و ثواب ملا ہوگا اور ان کے درجات و مراتب کسی قدر بلند ہوئے ہوں گے۔

طائی اور خیثمہ بن سلیمان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ:

لَا تَسْبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَمْقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ  
مِّنْ عَمَلِ أَحَدٍ كُمْ عُمْرَةً.

”اصحاب محمد ﷺ کو برانہ کہو در حقیقت ان کو [اپنی عبادتوں کا] یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی ساعت بھر کا نیک عمل تمہارے پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔“

۶:- حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم  
غرضًا بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم  
بغضى أبغضهم، ومن اذاهم فقد اذانى، ومن اذانى فقد  
اذى الله، ومن اذى الله فهو شرك ان يأخذه.

[الترمذی ، کتاب المناقب ، باب فی فضل من رأى النبي ﷺ رقم (۳۸۶۲)]

”اللہ سے ڈرو پھر اللہ سے ڈرومیرے صحابہ کے حق میں میرے بعد تم ان صحابہ کو نشانہ ملامت نہ بنانا [یاد رکھو] جوان کو دوست رکھتا ہے

تو وہ میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے اور جس شخص نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے گویا مجھ کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے مجھ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا اللہ کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کو پکڑے گا۔“

اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام سے محبت رکھی اس نے میری محبت کے ساتھ محبت رکھی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ صحابی سے محبت رکھنا میری محبت کی علامت ہے۔ ان سے وہی شخص محبت رکھے گا جس کو میری محبت حاصل ہو۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی صحابی سے محبت رکھتا ہے تو میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اس طرح اس کی محبت صحابی کے ساتھ علامت اس کی سمجھو کر مجھے اس شخص سے محبت ہے یہی دو معنی الگے جملے بعض صحابہ کے ہو سکتے ہیں کہ جو شخص کسی صحابی سے بعض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بعض رکھتا ہے یا یہ کہ جو شخص ان سے بعض رکھتا ہے تو میں اس شخص سے بعض رکھتا ہوں۔ دو معنی سے جو بھی ہوں یہ حدیث ان حضرات کی تشبیہ کے لیے کافی ہے جو صحابہ کرام کو آزادانہ تقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی طرف ایسی باقی منسوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والا ان سے بدگمان ہو جائے یا کم از کم ان کا اعتماد اس کے دل میں نہ رہے۔ غور کیا جائے تو رسول اللہ ﷺ سے بغاوت کے حکم میں ہے۔

کے:- حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ بعض امراء حکومت کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید نے فرمایا افسوس میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول ﷺ کو برا کہا جاتا ہے اور تم اس پر نکیر نہیں کرتے اور اس کو روکتے نہیں [اب سن لو] میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے [اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو آپ ﷺ نے فرمائی ہو کہ قیامت کے روز جب میں رسول اللہ ﷺ سے ملوں تو آپ ﷺ مجھ سے اس کا مواخذہ فرمائیں کہ کہنے کے بعد حدیث بیان کی کہ] ابو بکرؓ جنت میں ہیں۔ عمرؓ جنت میں ہیں۔ عثمانؓ جنت میں ہیں۔ علیؓ جنت میں ہیں۔ طلحہؓ جنت میں ہیں۔ زبیرؓ جنت میں ہیں۔ سعد بن مالکؓ جنت میں ہیں۔ عبدالرحمن بن عوفؓ جنت میں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراحؓ جنت میں ہیں۔ یہ نو حضرات صحابہ کے نام لے کر دسویں کا نام نہیں لیا۔ جب لوگوں نے پوچھا دسوال کون ہے تو ذکر کیا سعید بن زیدؓ [یعنی خود اپنا نام ابتداء بوجہ تواضع کے ذکر نہیں کیا لوگوں کے اصرار پر ظاہر کیا] اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ

والله لم يشهد رجل منهم مع النبي ﷺ يعبر فيه وجهه  
خير من عمل احدكم ولو عمره نوح عليه السلام.

[جمع الفوائد ۴۹۲/۲]

”اللہ کی قسم ہے کہ صحابہ میں سے کسی شخص کا رسول اللہ ﷺ کے

ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلو دھو جائے  
غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر کی عبادت و عمل سے بہتر ہے اگرچہ  
اس کو عمر نوح ﷺ عطا ہو جائے۔“

۸:- حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم  
الذين يلونهم فلا ادرى ذكر اثنين او ثلاثة ثم ان بعدهم  
قوم يشهدون ولا يستشهدون ويختونون ولا يؤتمنون  
وينذرؤن ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.

[جمع الفوائد ۴۹۰، ابن حبان ۱۵ / ۱۲۲]

بہتریں قرن میرا ہے پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہیں پھر ان  
لوگوں کا جو اس سے متصل ہیں راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ  
متصل لوگوں کا ذکر در مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ اس کے بعد ایسے لوگ  
ہوں گے جو بے کہے شہادت دینے کو تیار نظر آئیں گے خیانت  
کریں گے امانت دار نہ ہوں گے۔ عہد شکنی کریں گے معاهدے  
پورے نہ کریں گے اور ان میں [بعجه بے فکری کے] مثلاً ظاہر  
ہو جائے گا۔

اس حدیث میں متصل آنے والے لوگوں کا اگر در مرتبہ ذکر فرمایا ہے تو  
پہلا قرن صحابہ ؓ کا اور دوسرا تابعین رحمہم اللہ کا ہے اور اگر تین مرتبہ ذکر

فرمایا ہے تو تیرا قرن تبع تابعین رحمہم اللہ کا بھی اس میں شامل ہو گا۔

۹:- حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔

من كان متأسيا فليتاس باصحاب رسول الله ﷺ فانهم ابر هذه الامة قلوبها واعمقها علما واقلها تکلفا واقومها هديا واحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فابعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم۔

[شرح عقیدہ سفارینی ۲۸۰ / ۲]

”جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گھرے اور تکلف و بناوٹ سے الگ اور عادات کے اعتبار سے معتدل اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہیں یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت اور دین کی اقامۃ کے لیے پسند فرمایا ہے تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع کرو کیونکہ یہی لوگ مستقيم طریق پر ہیں۔“

۱۰:- حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے:

ان نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد ﷺ فبعثه بر رسالة ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد.

[احمد ۱/ ۳۷۹ و طبرانی کبیر ۹/ ۱۱۸، ابو داؤد طیالسی ص ۲۲]

اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد ﷺ کو ان سب قلوب میں بہتر پایا پھر ان کو رسالت کے لیے مقرر کر دیا پھر قلب محمد ﷺ کے بعد دوسرے دلوں پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد ﷺ کے قلوب کو دوسرے تمام بندوں کے قلوب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند کر لیا۔

۱۱:- حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

انه من يعيش منكم فيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بستوى وسنة الخلفاء الراشدين المهدىين عضواً عليها بالنواجد، واياكم ومحدثات الأمور فأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

[مسند أحمد ۴/۱۲۶، وأبوداود كتاب السنة، باب في لزوم السنة رقم (۴۶۰۷) الترمذى، كتاب

العلم رقم (۲۶۷۶) [کوain ماجھ و المقدمة رقم (۴۳)]

تم میں جو شخص میرے بعد رہے تو بہت اختلاف دیکھے گا تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو اس کو دانتوں سے مضبوط تھا مساوی اور نو ایجاد اعمال سے پرہیز کرو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت کی طرح خلفاء راشدین کو بھی واجب الاتباع اور قلنقوں سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

## خلاصہ کلام

مذکورہ ۱۱ صدر آیات قرآنی اور روایات حدیث میں بھی نہیں کہ اصحاب رسول ﷺ کی مدح و ثنا اور ان کو رضوان اللہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے بلکہ امت کو ان کے ادب و احترام اور ان کی اقتداء کا حکم بھی دیا گیا ہے ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے ان کی محبت کو رسول اللہ ﷺ کی محبت ان سے بعض کو رسول اللہ ﷺ سے بعض قرار دیا ہے۔

## الصحابۃ کلهم عدول

صحابہ کرام کے بعد دوسرا قرن حضرات تابعین کا ہے جس کو احادیث مذکورہ میں خیر القرون میں داخل کیا ہے اس خیر القرون حضرات تابعین میں بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سب سے افضل مانے گئے ہیں انہوں نے اپنے ایک مکتب میں صحابہ کرام کے مقام کی وضاحت اور لوگوں کو اس کے پابند ہونے کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی ہے یہ طویل مکتب حدیث مشہور متداول کتاب ابو داؤد میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کے ضروری جملے جو صحابہ کی شان میں ہیں ان کا ذیل میں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

پس تمہیں چاہیے کہ اپنے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جس کو قوم [صحابہ رضی اللہ عنہم] نے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس لیے کہ وہ جس حد پر ٹھہرے علم کے ساتھ ٹھہرے اور انہوں نے جس چیز سے لوگوں کو روکا ایک دور میں نظر کی بنابر روکا اور بلاشبہ وہ ہی حضرات و تحقیق حکمتوں اور علمی الجھنوں کے کھولنے پر قادر تھے اور جس کام میں تھے اس میں سب سے زیادہ فضیلت کے وہی مستحق

تھے پس اگر ہدایت اس طریق میں مان لی جائے جس پر تم ہو تو اس کے یہ معنی ہیں کہ تم فضائل میں ان سے سبقت لے گئے [جو بالکل حال ہے] اگر تم یہ کہو کہ یہ چیزیں ان حضرات کے بعد پیدا ہوئی ہیں اس لیے ان سے یہ طریقہ منقول نہیں تو سمجھ لو ان کو ایجاد کرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کے راستے پر نہیں ہیں اور ان سے علیحدہ رہنے والے ہیں کیونکہ یہی حضرات سابقین ہیں جو معاملات دین اتنا کلام کر گئے ہیں جو بالکل کافی ہے اور اس کو اتنا بیان کر دیا جو شفادینے والا ہے پس ان کے طریقہ سے کمی کوتا ہی کرنے کا بھی موقع نہیں ہے اور ان سے زیادتی کرنے کا بھی کسی کو حوصلہ نہیں ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے طریقہ سے زیادتی کا ارادہ کیا وہ غلو میں بنتا ہو گئے اور یہ حضرات افراط و تفریط اور کوتا ہی کے درمیان ایک راہ مستقیم پر تھے۔

فضل التبعین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہیں جن کی خلافت کو بعض علماء نے خلافت راشدہ کے ساتھ ملا یا ہے اور ان کے دور خلافت میں اسلامی قوانین کی تنفیذ اور شعائر اسلام کا اعلاء بلاشبہ خلافت راشدہ ہی کے طرز پر ہوا ہے۔ ان کے اس ارشاد کے مطابق ایک دو گمراہ فرقوں کے علاوہ پوری امت محمدیہ ﷺ نے صحابہ کرام کے متعلق اسی عقیدہ پر اجماع و اتفاق کیا ہے اس اجماع کا عنوان عام طور پر کتب حدیث اور کتب عقائد میں یہ ہے کہ ”الصحابۃ کلہم عدول“ حاصل مفہوم اس جملہ کا وہی ہے جو اپر کتاب و سنت کے حوالوں سے صحابہ کرام کے درجہ و مقام کے متعلق لکھا گیا ہے۔

## مغربی دنیا کی دریدہ وتنی

### توہین آمیز خاکے

یہود و نصاریٰ اور ارباب کفر و شرک، روزِ اول سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دشمن چلے آرہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ سے بعض وعداوت اور آپ ﷺ کی شان میں گستاخی و ہرزہ سرائی ان کی گھٹی، فطرت اور خیر میں شامل ہے، جس طرح بچھوکے لیے ڈنگ مارنے کی عادت چھوڑنا ناممکن ہے اسی طرح ان ملعونوں کا گستاخی سے بازاً ناجھی ناممکن ہے۔

ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح انسانیت کو رسول اکرم ﷺ کے دامنِ رحمت سے کاثر دیں؟ چنانچہ انہوں نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ ہرزہ سرائی کی تھی کہ نعوذ باللہ! آپ ﷺ بے نام و نشان ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے طے فرمار کھا ہے کہ ﴿إِنَّ شَانِئَكُمْ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (کوثر) آپ ﷺ نہیں، بلکہ آپ ﷺ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے کہ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (الم نشرح) ہم آپ ﷺ کے نام اور مقام کو بلند سے بلند تر کریں گے۔

یوں تو دشمنانِ اسلام اور یہود و نصاریٰ کی انبیاء و شمی، ان کی توہین و تنقیص کی تاریخ بہت طویل اور تکلیف دہ ہے مگر گذشتہ چند مہینوں سے ان بدباطنوں نے حضرت خاتم النبیین ﷺ کی شان میں جس بے شرمی و ڈھنائی

کے ساتھ توہین، تنقیص اور گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے بلاشبہ وہ ان کی تاریخ کے سیاہ کارنامہ ہے اس سے جہاں مغرب کا مکروہ اور سیاہ چہرہ بے نقاب ہو کر سامنے آگیا ہے وہاں مسلمانوں کو بنیاد پرست، نگ نظر اور مذہبی جنوں کہنے والوں کی اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ:

ڈنمارک کے اخبار "جے لینڈ پوشن" (Jylland Posten) کے ایڈیٹر جان ہمینس کے ایک بد بخت اور دردیدہ دہن دوست نے نعوذ باللہ! پیغمبر اسلام ﷺ کی حیات طیبہ پر ایک گستاخانہ کتاب لکھی جسے مزید بد بودا رہنا نے کے لئے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے توہین آمیز تصویری خاکے اور کارثوں بھی اس میں شامل کرے اس نے اس مقصد کے لیے مختلف آرٹسٹوں سے رابطہ کیا تو تمام آرٹسٹوں نے یہ کہہ کر مغدرت کر لی کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو مسلمان انہیں توہین رسالت کا مرتكب قرار دے کر قتل کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ہالینڈ کے اس قضیہ کا حوالہ دیا کہ ایک فلم ساز نے فلم میں کسی برهنہ اور عریاں عورت کے جسم پر قرآنی آیات لکھ دیں تو ایک مسلمان نے اس گستاخ فلم ساز کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس مسلمان نوجوان پر مقدمہ چلا تو اس نے واشگراف الفاظ میں کہا کہ تم مجھے پھانسی دے دو اس لیے کہ اگر میں زندہ رہا تو میرے سامنے جو بھی اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرے گا میں اسے بھی قتل کر دوں گا۔ ان آرٹسٹوں کا کہنا تھا کہ اس مسلمان نوجوان کا بیان مسلمانوں کی ایمانی غیرت، اپنے دین و مذہب اور شعائر اسلام سے والہانہ واپسگی اور شیفقتگی کی نشاندہی کرتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اپنے دین و مذہب

نبی اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مقدس شخصیات کے معاملہ میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بدجھت شامِ رسول مصنف نے جب ”جے لینڈ پوشن“، اخبار کے ایڈیٹر کو اس صورت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے تمام آرٹسٹ بزدل ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر کے خاکے بنانے پر تیار نہیں تو ”جے لینڈ پوشن“ کے دریدہ وہن ایڈیٹر نے کہا کہ آرٹسٹ خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ڈنمارک ایک سیکولر ولبرل ملک ہے یہاں آباد تمام مسلمان ہمارے کلچر میں رنگ چکے ہیں اور ان میں وہ تمام بری عادات و اطوار موجود ہیں، جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، چنانچہ اس ملعون ایڈیٹر نے اپنے اخبار کے آرٹسٹ کو بلایا، اسے ایک عنید یہ دے کر خاکے بنانے کا حکم دیا، یوں اس شامِ رسول آرٹسٹ نے رسول اللہ ﷺ کی توہین و تنقیص پر مشتمل متعدد خاکے اور کارڈوں بنا کر ایڈیٹر کے حوالے کئے جن میں بارہ خاکوں کو اشاعت کے لیے منتخب کیا گیا، ان میں سے ایک خاک ایسا تھا جس میں سے پیغمبر اسلام ﷺ کی شبیہ بنائی گئی اور اس خاک کے سر پر پکڑی بنا کر اس میں بم رکھا ہوا دکھایا گیا، گویا نعوذ باللہ! نبی اکرم ﷺ دہشت گرد تھے۔

چھپنے والا مقامی اخبار ہے جان ہمیں اس کے ایڈیٹر ہیں، اپنے اخبار کی معمولی شہرت کے لیے ایڈیٹر نے ۳۰ ستمبر ۲۰۰۵ء کو نازیبا کارڈوں چھاپے، جن کی تعداد بارہ تھی۔ اخبار ڈینیش زبان میں چھپتا ہے، اس لیے ڈنمارک میں رہائش پذیر بہت سے مسلمان اس کو نہیں پڑھتے۔ ۳۰ ستمبر کو جب یہ نازیبا کارڈوں چھپے تو چند مسلمانوں نے انہیں دیکھا اور پھر ایک دوسرے سے ایک

مینگ میں مشورہ کیا۔ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ ۲ لاکھ ہے، جن کا تعلق مختلف مسلم ممالک سے ہے، اکثریت مشرق وسطی سے ہے، وہاں متحرک مسلمان تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ان نازیبا کارٹون کی اشاعت پر ایک پر امن احتجاج کیا جائے اور اخبار کے ایڈیٹر کو احساس دلایا جائے کہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لہذا وہ معافی مانگے۔ ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو کوپن ہیکن میں ایک انتہائی مظہم اور پر امن ریلی منعقد کی گئی، جس میں تقریباً چار ہزار افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں اخبار کے مدیر سے معافی طلب کی گئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ ہماری آزادی کا مسئلہ ہے، دل آزاری ہوتا ہوا کرے۔

ڈنمارک کے مسلمان کافی پریشان ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈنمارک کے وزیر اعظم جناب آندرے رسان کی توجہ اس طرف مبذول کرانی جائے تاکہ ایسی شرمناک حرکت کو آئندہ ہونے سے روکا جائے اور ایڈیٹر کو حکومت احساس دلائے کہ وہ نازیبا حرکت پر معافی مانگے۔ ڈنمارک میں مقیم مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنے اپنے ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ ان کے جذبات کو ڈنمارک کے وزیر اعظم تک پہنچادیں تاکہ آئندہ کامدارک بھی ہو جائے اور موجودہ حرکت کی تلافی بھی۔

اسلامی ممالک کی اس سفیروں نے مشترکہ درخواست بھیجی تاکہ وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکے اور ان کی توجہ اس خطرناک حرکت کی طرف دلائی جائے اور معاملے کو خوش اسلوبی اور مہذب طریقے سے حل کرالیا جائے۔ وزیر اعظم

نے مسلم سفیروں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ کمال ہے! ایسا حساس معاملہ اور مودبادہ ملاقات کی گزارش؟ مگر ڈنمارک کے وزیر اعظم نے تمام سفارتی اخلاقیات کی وجہیں بکھیرتے ہوئے صاف انکار کر کے ڈنمارک کے رہائش پذیر مسلمانوں کی منزیدل آزاری کی اور ان کو ایک دورا ہے پر کھڑا کر دیا کہ اب کس کے پاس جائیں، جو ہماری بات بنے؟ یہی وہ وقت تھا جب وزیر اعظم ڈنمارک یا اس سے پہلے اخبار کے ایڈیٹر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ڈنمارک کے مسلمانوں کو حیرت زدہ اور اس کے ساتھ ساتھ برہم کر دیا۔

ڈنمارک کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ اب دوسرا مسلمان بھائیوں کے علم میں لا یا جائے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، وہ دوبارہ نہ ہو۔ مسلم رہنماء ابوالین نے کارٹونوں پر مشتمل ایک تفصیل بنایا کہ چار وفد: مصر، لبنان، شام اور سعودی عرب روانہ کئے۔ اب نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بس پھر یہ آگ بھڑک کر پہلینا شروع ہو گئی۔

۷۵ مسلم ممالک نے مکہ سے ایک مشترکہ بیان میں سخت الفاظ میں اس حرکت کی مذمت کی۔ امام کعبہ نے مکہ شریف سے اعلان کیا کہ جو رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارک کی شان میں تفحیک کرئے وہ قابل گرفت اور سزا کا حقدار ہے۔ سعودی حکومت نے ڈنمارک سے سفارتی تعلقات پر منقطع کر لیے اور اپنا سفیر واپس طلب کر لیا۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔

مسلمانوں کی مزید دل آزاری اور ہنگامہ آمیز رویہ رکھتے ہوئے فرانس، اپیں، ناروے اور جرمنی کے اخبارات نے ڈنمارک کی حمایت میں دوبارہ کارٹون کی اشاعت کی اور کہا کہ یہ سب کچھ پر لیں کی آزادی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون ہی آزادی ہے کہ آپ کسی کو اذیت پہنچانے کا حق مانگتے ہیں؟ یہ آزادی نہیں بلکہ معاشرتی اور مذہبی خلیج اور نفرت کا اظہار ہے تاکہ مسلمان جو پہلے ہی رنجی ہیں ان کی مزید تذلیل کی جائے۔

تین ماہ بعد وزیر اعظم ڈنمارک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ڈنمارک میں مقیم تمام سفیروں کو طلب کر کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا لیکن مسلم سفیروں نے کہا کہ معاملہ اب حکومتی ذرائع سے دور نکل گیا اور عوام میں جا چکا ہے۔

اگر واقعات کی یہ ترتیب دیکھ لی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رد عمل انہتائی شاستہ اور مہذب انداز میں اور سفارتی اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا، اور مسئلہ کا منصفانہ اور باعزت حل چاہا، لیکن ان کو دھنکار دیا گیا، اور ان کے جذبات جان بوجھ کر بھڑکائے گئے اور اب بھی مختلف بیانات کے ذریعے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا اور ہے، ایسی نہ موم حرکت سے (اسلام دشمنوں کے علاوہ) کسی کو کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی یورپی پارلیمنٹ اور یورپی کمیشن اس کی حمایت کر رہے ہیں، آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، حالانکہ جرمنی میں ہتلر سے ملتا جلتا اشتہار چھانپنے پر جس سے اس کی تعریف جملکتی ہو سات سال قید ہے۔ واہ! ہتلر سے ملتی جلتی تصویر چھانپنا تو قانونا جرم ہے، لیکن مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کے نبی ﷺ کی توہین آزادی صحافت

ہے، یہ ہیں مہذب، تعلیم یافتہ یورپ کی اقدار۔

[روزنامہ جگ کراچی: ۱۸/ فروری ۲۰۰۶ء]

جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ گستاخی بے لینڈ پوشن، اس کے ایڈیٹر اور آرٹسٹ تک مدد و نہیں رہی۔ اگر بالفرض یہ خاکے علمی میں شائع ہوئے تھے یا آزادی اظہار کی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی اشاعت سے ۷۵ اسلامی ممالک اور دنیا بھر کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو نہ صرف یہ کہ ان کی اشاعت روک دی جاتی، ان کی اشاعت پر ایڈیٹر اور آرٹسٹوں کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہئے تھی، بلکہ ڈنمارک حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس بد باطن آرٹسٹ ایڈیٹر اور اخبار کے خلاف تادبی کارروائی کرتی، مگر افسوس کہ اس کے بر عکس اس نے ان کی پشت پناہی شروع کر دی، صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے یورپی ممالک نے بھی اس بے حیائی و بے شرمی میں ان کا ساتھ دیا۔ چنانچہ ۱۰/ جنوری ۲۰۰۶ء کو یہ خاکے ناروے کے ایک جریدے ”کرشن میگزین“ نے شائع کئے۔ اسی طرح ناروے کے ایک بڑے اخبار ”راغ بلاوت“ نے بھی انہیں اٹرنسیٹ پر جاری کیا اور ۱۲/ جنوری کو اخبار میگزینیٹ (MAGAZINAT) نے انہیں دوبارہ شائع کرنے کی تاپاک جسارت کی اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ اور ہالینڈ کے اخبارات نے بھی ان دل آزار خاکوں کو شائع کیا جبکہ ۱۰/ جنوری ۲۰۰۶ء کو فرانسیسی چاہ لی ہیب دو، اور روزنامہ، سارے فرانس نے بھی انہیں شائع کر کے ان گستاخوں کا ساتھ دیا، اسی طرح ۸/ فروری کو ان جریدوں نے ان خاکوں کو دوبارہ شائع کر کے مسلمانوں کے دل زخمی کیے اور ۸/ فروری کو ہی امریکہ کے ”فلاؤیلفیا انکوارر“ اور ”نیو یارک

سن، نے بھی ان دل آزار خاکوں کو شائع کر کے اپنی بد بختی اور اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، ۹/ فروری کو یہ خاکے یمن کے ایک اخبار نے اور ۱۰/ فروری کو روی میوزیم کے ڈائریکٹر نے ان خاکوں کی باقاعدہ اشاعت کا اعلان کیا۔

اس کے علاوہ بی بی سی لندن، سی این این، اے بی سے، واشنگٹن پوسٹ، نیویارک ٹائمز بھی اس دریدہ وتنی میں کسی سے پچھے نہیں رہے، بلکہ اخباری اطلاعات کے مطابق اب امریکہ میں اس کے لیے باقاعدہ ایک ویب سائٹ بنالی گئی ہے جس پر دنیا جہاں کے شقی ازیٰ توہین رسالت اور عدواتِ اسلام پر مبنی خاکے بھیج اور دیکھ سکتے ہیں۔

ان بد باطنوں نے جس بے شرمی، ڈھنائی اور شرمناک انداز سے رسول اکرم ﷺ کی توہین و تشقیص اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اس سے مسلمانوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام اس پر سراپا احتجاج ہے۔ بلاشبہ ان بد باطنوں نے مسلمانوں کی غیرت کو لکھا رہے اور نبی اکرم ﷺ کی شان میں گستاخانہ کارروائون اور توہین آمیز خاکے بنانے اور شائع کرنے کے بعد گویا انہوں نے کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں محمد عربی ﷺ کے نام لیوا کس حد تک آپ ﷺ کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے ہیں؟ اور دشمنانِ رسول سے کس حد تک اپنی نفرت و بیزاری کا ثبوت دیتے ہیں؟

جہاں تک اب تک کی صورت حال کا تعلق ہے، تو بحمد اللہ! دنیا بھر کے تمام مسلمانوں نے دنیاۓ کفر پر تھوکنے، ان کے اس متعصباۓ اور قابل گردن

زدنی کردار سے بھر پور نفرت کا اظہار کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اب سمجھ چکے ہیں کہ دنیا نے کفر، ان کو کس غار میں دھکلینا چاہتی ہے۔

غالباً یہودی و نصاریٰ اور ان کے سرپرستوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان خواہ کیسا ہی بے عمل یا بعمل کیوں نہ ہو، مگر اس کو اپنے نبی اُنیٰ ﷺ سے بے پناہ والہا نہ تعلق اور غیر معمولی محبت و عقیدت ہے اور وہ اس محبت و عقیدت کے تعلق پر کسی سودے بازی کا روا دار نہیں۔ دنیا نے کفر کا خیال تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو عیسائیٰ و بے دین بنانے کے لیے این جی او ز کا جال بچھایا، بودباش اور لباس و پوشک کے اعتبار سے بالفعل مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا، مسلمانوں کے مقابلہ میں امریکی بغل بچھے یہودی اسرائیل کی سرپرستی کی، فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی نسل کشی کی، بیروت ولبنان کی ایئنٹ سے ایئنٹ بجائی، کوسوو اور چیچنیا کے مسلمانوں کو تہہ خاک کیا، افغانستان و عراق پر چڑھائی کی، وہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کی عز تین اور عصمتیں پامال کیں، پچاس سال سے کشمیری مسلمانوں کو حق خود را دیت سے محروم رکھا، سعودی عرب کی معیشت پر ڈاکہ ڈالا، غرضیکہ جہاں جو چاہا کیا، مگر اس کے آگے کسی نے چوں نہیں کی، تو آئندہ بھی ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جب اس نے یہ مراحل با آسانی طے کر لیے مسلمانوں کی معیشت اور ان کے وسائل پر قبضہ جمالیا، تو اس کا اگلا ہدف اور نشانہ مسلمانوں کا دین و مذہب تھا۔ چنانچہ اس نے اب مسلمانوں کی محبوب ازول وجہان ہستی، حضرت محمد عربی ﷺ کی ذات پر براہ راست حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اس کا خیال تھا کہ مسلمان اس کو بھی اسی طرح با آسانی ہضم کر لیں گے جس طرح انہوں نے اب تک اپنے خلاف

کئے جانے والے تمام ناپاک اقدامات کو برداشت کر لیا ہے، لیکن موجودہ عالمی احتجاج کی صورت حال سے دنیا یے کفر کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مسلمان چاہیے کتنا ہی گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا کیوں نہ مگر وہ ذات نبوی ﷺ کی ادنی سے ادنی گستاخی اور تو ہیں تنقیص برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ گستاخان نبی کے بارہ میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ:

۱ - ﴿مَلُوْنِينَ أَيْنَ مَا تُقْفُوا أَخْذُوا وَقُلُّوا تَفْتِيًلا﴾۔

(الاحزاب: ۶۱)

”ایسے ملعون جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو پر زے پر زے کر دیا جائے۔“

۲ - ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾۔

(الکوثر: ۳)

”بیشک آپ ﷺ پر عیب لگانے والوں کی جڑکاث دی جائے گی۔“

۳ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعْدَلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾۔

(الاحزاب: ۵۷)

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو ایسا اپنچھاتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اور علمائے امت کا اجماع واتفاق ہے کہ:

”سید دو عالم ﷺ کی شانِ اقدس میں صراحتہ، کنایتہ، گستاخی

کرنے والا کافر ہے، اگر تو بہنة کرے تو واجب انتقال ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اس گستاخی کا ارتکاب کرے تو مباح الدم ہے۔“

(الصارم المسلول، ابن تیمیہ)

اس لیے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان اور محمد عربی ﷺ کا گناہ گار سے گناہ گار نام لیوا، حضرت محمد ﷺ یا کسی بھی نبی کی تو ہیں و تخفیف قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔

موجودہ صورت حال میں ایک طرف اگر پوری دنیا کے ڈیڑھ ارب مسلمان سراپا احتجاج ہیں تو دوسری طرف دنیاۓ کفر، ان بدقاش شاتمین اور توہین رسالت کے مرتکبین کی پشت پناہی اور تحفظ پر کربستہ ہے، بلکہ ان کی ہم نوائی میں اس حد تک ہر زہ سرا ہے کہ نعوذ باللہ“ ہمیں اللہ کے کارروں بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔“ (روزنامہ ”خبریں“، کراچی، ۲ فروری ۲۰۰۶ء)

آزادی اظہار رائے کے دعویدار، ان شاتمتوں سے کوئی پوچھھے کہ تمہیں مسلمانوں کی تو ہیں و تنقیص، ان کے دین و مذہب اور ان کے نبی ای مکالمہ کی گستاخی کے وقت تو آزادی اظہار رائے کا شدت سے احساس و خیال آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ احساس، خیال اور جنون تمہیں ہولو کاست کے قانون کے خلاف زبان کھولنے اور لکھنے کی جرأت کیوں نہیں دیتا وہاں تمہارے آزادی اظہار رائے کے جذبہ کو کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے؟

ہولو کاست کیا ہے؟

”ہولو کاست“ کا مفہوم اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے

پراپیگنڈا کیا تھا کہ: جرمی میں ہمارا قتل عام کیا گیا اور سانحہ لاکھ یہودیوں کو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے دور اقتدار میں پولینڈ کے شہر شوہز بنائے گئے کیس چیمبرز میں قتل کیا گیا، لہذا ہمیں الگ ملک دیا جائے ان کے اس پراپیگنڈا کی وجہ سے ان کو اسرائیل ریاست دے دی گئی مگر جب تحقیق ہوئی تو ان کا دعویٰ جھوٹا نکلا تب انہوں نے قانون بنوادیا کہ یہودیوں کے اس دعویٰ کو چیلنج نہیں کیا جاسکے گا لہذا ”ہولوکاست“ کے اس قانون کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس یہودی دعویٰ کے خلاف بولے اور لکھے وہ قابل گردن زدنی ہوگا، لہذا اس کے بعد سے آج تک کوئی ”حق گو“ اس کے خلاف بول اور لکھنہیں سکتا حتیٰ کہ اس پر تحقیق بھی نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اس ہولوکاست کے قانون کے خلاف کسی کو آزادی اظہار رائے کا خیال کیوں نہیں آتا۔

بلاشبہ ڈنمارک، اٹلی، جرمی، فرانس اور تاروے اس شیطنت میں سب سے بڑھ کر ہیں، جبکہ امریکہ بھی اس سلسلہ میں دلی اور اندر ورنی طور پر ان کا ہم نوا ہے، مگر اس کا کردار خالص منافقانہ ہے یہ وجہ ہے کبھی کبھی تو: ﴿فَذَبَّتِ الْغُصَّاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (آل عمران: ۱۱۸) کے مصدق وہ بھی اپنے خبث باطن کو اگلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تاہم آسمان پر تھوکنے سے آسمان کا کچھ نہیں بگزرتا، مگر تھوکنے والے کامنہ ضرور خراب ہو جاتا ہے۔

دراصل امریکہ اس صورت حال سے دو ہر افائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ایک طرف وہ اپنے مقابلہ میں آنے والی یورپی یونین کو کمزور کرنا اور اس کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پر متعہم کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ مسلمانوں کے اعصاب

کمزور کر کے ان پر دنیاۓ کفر کا رب بھانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنے آپ سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کبھی کبھی مسلمانوں سے ہم نوائی کے ایک آدھے بیان سے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تاہم دنیاۓ مغرب اور امریکہ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان اپنے نبی کی عزت و عظمت اور حرمت و ناموس پر سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے مگر اس پر آخوندی نہیں آنے والے گا۔

مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک دین، مذہب، اسلام، شعائر اسلام اور اپنے نبی ﷺ کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا ہے اور جس بد بخت نے کبھی کوئی ایسی حرکت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ چنانچہ اسود عنیٰ اور مسلیمه کذاب سے لے کر یوسف کذاب تک تمام مدعیان نبوت، میحیت، مہدویت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے ایسے گتابخون کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا۔

آج اگر راج پال کے جانشین موجود ہیں تو بحمد اللہ! عازی علم الدین شہید کے نام لیوا بھی موجود ہیں، اس لیے مغرب اور اسکے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس ناپاک روٹ سے بازا آجائیں ورنہ دنیا کا اُن تہہ و بالا ہو سکتا ہے، اگر مسلمانوں کی مقدس ہستیاں خصوصاً حضرات انبیاء کرام ﷺ کی عزت و ناموس محفوظ نہ رہی تو دنیا کی کوئی شخصیت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔

اس موقع پر مسلمانوں نے جس طی غیرت، حمیت اور اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا اور اس مذہبی دہشت گردی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے وہ لائق

صد تبریک اور قابل صدمبار کباد ہے، خصوصاً سعودی عرب، مصر اور لیبیا اس سلسلہ میں سب سے سبقت لے گئے، سیاسی و مذہبی راہنماؤں، وکلاء، جوؤں، صحافیوں اور اخبارات، سکول و کالج کے اساتذہ و طلباء پھوؤں بڑوں، خواتین، سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین۔ (ہاتھیاں بیانات جلد نمبر ۱۹، شمارہ نمبر ۲)

## توہین آمیز خاکے اور عصر حاضر کے قوانین

توہین کے ان واقعات پر غیر مسلم حکومتوں کا روایہ بھی ہٹ دھری، تکبر و تمسخر اور اتنا نیت کا مظہر ہے۔ اس نوعیت کے واقعات پران کی پیش کردہ بعض معدودت آرائیاں بھی منافقت کے پردے میں لپٹی ہوئی ہیں۔ ان اخبارات کے سابقہ رویے، ان ممالک کے اپنے قوانین اور قوام متحده و دیگر عالم قوانین ان کے اس دوہرے معیار کی کسی طور حمایت نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود میڈیا کے مل بوتے پران کی تکرار جاری و ساری ہے۔

① جہاں تک توہین آمیز خاکے شائع کرنے والے اخبار کا تعلق ہے..... جس کی پیشانی پر یہودیوں کا عالمی نشان، شارف آف ڈیوڈ، اس کے متعصب یہودی ہونے کا برطان اظہار ہے..... تو اسی اخبار نے ۲ برس قبل حضرت عیسیٰ ﷺ کے بارے میں بعض تنازعہ خاکے شائع کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں اس سے ان کے بعض قارئین کے جذبات متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ وہ خاکے کر سٹوفرز نامی کارٹونسٹ نے بنائے تھے۔ مذکورہ خاکوں کی اشاعت کے عمل کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو حادثہ کی بجائے ایک منظم سازش کا پتہ چلتا ہے۔ (تفصیلات روزنامہ جنگ، ۱۲ فروری ۱۹۶۷ء جاوید چوہدری)

لمحہ بے لمحہ اس سازش کو جس طرح پروان چڑھایا گیا اور جن جن مراحل سے اسے گزارا گیا، اس کا تفصیلی تذکرہ ہفت روزہ ندائے ملت کے کیم مارچ ۲۰۰۶ء کے شمارے میں ایک مستقل مضمون میں کیا گیا ہے۔ یوں بھی یہ ڈنمارک سکنڈے نیوین ممالک میں سب سے زیادہ یہودیت نواز ملک ہے کیونکہ تاریخی طور پر یورپ سے نکالے جانے کے بعد سب سے زیادہ یہودی ڈنمارک میں ہی رہائش پذیر ہوئے تھے اس لیے اسی ملک میں اس سازش کا نجع ڈالا گیا ہے۔ اس سازش کا مختصر تذکرہ اپنے الفاظ میں حسب ذیل ہے:

”ان خاکوں کی اشاعت کے دو بنیادی کردار ہیں: پہلا ڈینیش پائپس نامی امریکی عیسائی جو صدر بخش کے ساتھ گھرے سیاسی و تجارتی مراسم رکھنے کے علاوہ بعض کمیٹیوں کا بھی رکن ہے اور امریکی اخبار اسے ‘اسلام فوبیا کا مریض’ اور مغربی دانشور، اسلام دشمن، قرار دیتے ہیں۔ اسلام کے نام پر دنیا بھر میں جہاں کوئی سرگرمی ہوتو وہ اس کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ دوسرا ہم کردار جیلانڈ پوشن نامی اخبار کا یہودی گلچر ایڈیٹر فلیمنگ روز۔ مسلمانوں کے خلاف یہ دہشت گردی عیسائیوں اور یہودیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایڈیٹر کافی عرصہ سے توہین رسالت کے موقع کی تلاش میں تھا کہ کرے بلوٹکن نامی ایک ڈینیش مصنف نے نبی ﷺ پر ایک مختصر کتاب میں شائع کرنے کے لیے اس سے آپ کا کوئی خاکہ طلب کیا۔ اس تقاضے پر فلیمنگ نے ڈینیش کی حمایت اور تعاون کے بل بوتے پر آپ ﷺ کے خاکے

بنانے کے لیے ایک اخبار میں اشتہار شائع کرا دیا۔ ۲۰ سے ۱۲ بد بخت کارٹونسٹ اس مذموم حرکت کے لیے آمادہ ہوئے اور ان میں سے ولیسٹر گارڈ نامی ملعون کارٹونسٹ نے توہین آمیز خاکے تیار کئے۔ اپنے قتل کا فتویٰ ملنے کے بعد سے یہ شخص روپوش یا ذمیش پولیس کی حفاظت میں ہے جبکہ فلینگ میامی (امریکہ) میں اپنے دوست ڈینٹل کی میزبانی اور تحفظ سے محظوظ ہو رہا ہے۔“

(ہفت رواہ فیصلی بیگرین: ۵ مارچ ۲۰۰۶ء سازش کے اصل بحث)

ڈینٹل اخبار کا یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ذہنیت ہے جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہی قرار دیا ہے۔ اور خود فلینگ روز سے جب اپنے طرز عمل پر افسوس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان خاکوں کی اشاعت کے پس پرده ایک جذبہ کار فرمائے اور وہ دہشت گردی جسے اسلام سے روحانی السلح فراہم ہوتا ہے۔

(روزنامہ ڈان: ۱۹ فروری ۲۰۰۶ء)

② جہاں تک ڈنمارک کے قوانین کا تعلق ہے تو اس حرکت میں اس کے اپنے طے شدہ کئی قوانین کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ڈنمارک کے کریمنل کوڈ کے سیکشن ۱۲۰ کے مطابق

”ہر وہ شخص جو ملک میں قانونی طور پر مقیم کسی فرد یا کمیونٹی کے مذہب یا عبادات اور دیگر مقدس علامات کی تفعیل کرے گا، اسے زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی قید یا جرمانہ کی سزا دی جاسکے گی۔“

غور طلب امر یہ ہے کہ جیلانڈ پوست نامی اخبار اور اس کے ایڈیٹر کو اس قانون سے کیوں بالاتر کھا جا رہا ہے؟ جبکہ ڈنمارک کی سرکاری ویب سائٹ پر خود اس اخبار پر اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی قانونی اقدام سے گریز کا رویہ زیر عمل ہے۔

● ایسے ہی ڈنمارک ہی کے پیشہ کوڈ کے سیکشن ۲۶۶ بی کے مطابق ”ایسا کوئی بھی بیان یا سرگرمیاں جرم ہیں، جو کسی بھی کیونٹی کے افراد کے لیے رنگ، نسل، قومیت، مذہب یا جنس کے حوالے سے دل آزار ہوں۔“ ڈنمارک کے یہ اخبارات و جرائد اس دفعہ کی خلاف ورزی کے بھی مرتكب ہوئے لیکن یہاں بھی قانون کو حرکت میں نہیں لاایا جا رہا۔

● مزید برآں ڈنمارک کے آئین میں آزادی اظہار کے حوالے سے سیکشن ۷ کی روئے

”ہر شخص کو اپنے خیالات کے اظہار اور انہیں چھاپنے کی مکمل آزادی ہے لیکن وہ اپنے خیالات کے حوالے سے کورٹ آف جسٹس، کو ضرور جواب دہ ہے۔“

اگر ان اخبارات کی اس حرکت کو آزادی اظہار کے ذمہ میں لانے کو بھی بفرض محال تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس، کورٹ آف جسٹس نے دنیا بھر کے مظاہروں کے بعد ان اخبارات سے کسی جواب طلبی سے تاویت کیوں گریز کیا ہے؟

③ ڈنیش اخبارات و جرائد کے بعد جب یہ کارثون مغربی میڈیا میں شائع

ہوئے ہیں تو اس امر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کیا عالمی قوانین اور مغرب کے مسلمہ تصورات مغربی میڈیا کو بھی انہیں شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟

● اس سلسلے میں میڈیا ہر جگہ آزادی اظہار کے حق کا تذکرہ کر رہا ہے، یوں بھی مغرب میں اس فلم نے کو بعض وجوہ سے ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ باوجود اس امر کہ اسلام آزادی اظہار کے مغربی تصور کا قائل نہیں لیکن حالیہ خاکے مغرب کے اپنے پیش کردہ تصویر پر بھی پورا نہیں اترتے کیونکہ ہر انسان کو اس حد تک ہی آزادی اظہار حاصل ہوتا ہے جب تک یہ اظہار دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ آزادی اظہار کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دوسروں کی حدود میں دخل اندازی کی جائے۔ ایک انسان جب آزادی اظہار کے ذریعے دوسروں کے مقدس تصورات و نظریات اور ہنما شخصیات پر تقيید کرے گا تو یہ آزادی کے بجائے کھلم کھلا جا رہیت کا ارتکاب کہلانے گا دوسرے کے جذبات سے کھلینا آزادی اظہار کے بجائے ”دہشت گردی کا ارتکاب“ ہے۔ جو من مفکر ایمانویں کا نٹ کام مشہور مقولہ ہے کہ

”میں اپنے ہاتھ کو حرکت دینے میں آزاد ہوں لیکن جہاں سے تمہاری ناک شروع ہوتی ہے میرے ہاتھ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔“

”ایسے ہی ہر انسان کی آزادی وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، جہاں دوسرے کی شروع ہوتی ہے۔“

اس لحاظ سے بھی ان اخبارات کا یہ رو یہ آزادی اظہار کے مغربی تصور

کے استھصال اور کھلی مخالفت پر منی ہے۔ آزادی اظہار کی یہ حد بندی صرف ایک مسلم حقیقت نہیں بلکہ یورپی کنونشن کا چارٹر ( مجریہ ۱۹۵۰ء، روم) اس کو قانونی حیثیت بھی عطا کرتا ہے۔ جس کی رو سے

”آزادی خیالات کے ان حقوق پر معاشرے میں موجود قوانین کے دائرہ کار کے اندر ہی عمل کرنا ہو گا تا کہ یہ آزادیاں کسی دوسرے فرد یا کمیونٹی کے تحفظ، امن و امان اور دیگر افراد یا کمیونٹی کے حقوق اور آزادیوں کو سلب کرنے کا ذریعہ نہ بنیں۔“

مزید برآں اسی چارٹر کے سیکشن ۱، آرٹیکل ۱۰ کی شق اول و دوم میں بھی

درج ہے کہ

”آزادی اظہار کے حوالے سے ملکی قوانین پامال نہیں کئے جائیں گے تا کہ جمہوری روایات، علاقائی سلامتی، قومی مفادات، دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور باہمی اعتماد کو نقصان نہ پہنچے۔“

”آزادی اظہار کا یہ تصور فرض شناسی اور ذمہ دارانہ رویے سے مشروط ہے۔“

”آزادی اظہار کا حق نہایت حزم و احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، اس کے ذریعے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ملک میں معاشرے کی اخلاقی اقدار، دوسروں کی عزت نفس اور ان کے بنیادی حقوق کو گزند پہنچائے۔“

● آزادی اظہار کا یہ حق انتہیش کنونشن آف سول اینڈ پولیکل رائش،

iccr کے ذریعے بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے حسب ذیل مضمون دیکھیں:

روزنامہ پاکستان، لاہور، نسلی و مذہبی منافرت اور عالمی قوانین، از آغاز شاہی توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی مخالفت ان متعدد فیصلہ جات سے بھی ہوتی ہے جو ماضی میں مغرب کی مختلف عدالتیں سن اچھی ہیں۔ اس کے باوجود ڈینیش حکمرانوں کا یہ عذر عذر گناہ بدتر از گناہ، کام صداق اور دیگر حکمرانوں کی ان سے ہم نوائی دراصل اسلام سے دشمنی کا بر طلاق اظہار ہے۔ میڈیا کے مل پوتے پر اسلام کے بارے میں پیدا کیا جانے والا تعصب مختلف مراحل پر اپنا رنگ دکھارتا ہے اور اس کو اپنے لبرل قوانین کا تحفظ پہنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔

یورپی یونین کی ہیومن رائٹس کی اعلیٰ ترین عدالیہ نے سال ۱۹۹۶ء میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے توہین مسح کے مقدمہ میں فیصلہ اور درج شدہ آرٹیکل ۱۰ کے تحت اپیل کی ساعت کے بعد ایک اہم اور دلچسپ مقدمہ، نگرو بیانم مملکت برطانیہ میں بڑا معرکہ آرافیصلہ صادر کیا ہے جو یورپی یونین کے تمام ممبر ممالک پر لاگو ہے۔

یہ کیس ایک ایسی فلم کے بارے میں تھا جس سے حضرت عیسیٰ ﷺ کی توہین کا تاثر ابھرتا ہے اور اس کو برطانوی سنسر بورڈ نے اس بنان پر نمائش سے روک دیا کہ اس سے عیسائی شہریوں کے جذبات مشتعل ہونے کا اندریشہ تھا۔ سنسر بورڈ کے خلاف فلم ازانے برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت

ہاؤس آف لارڈز، میں اپیل کی جہاں اس عدالت عظمی کے ایک لبرل نج اسکار نے یہ قرار دیا کہ ”توہین مسح کا قانون برطانیہ کے لیے ناگزیر ہے“، اس ہاؤس نے بھی فلم کو نمائش سے روکنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ فلمساز نے پھر اس فیصلہ کے خلاف حکومت برطانیہ کو فریق بناتے ہوئے حقوق انسانی کی اعلیٰ ترین عدالت میں اس فیصلہ کو اوپر درج شدہ آرٹیکل ۱۰ کی رو سے چیلنج کر دیا۔ یورپی یونین کی اس اعلیٰ ترین عدالت نے اس آرٹیکل کی تشریع کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ ”توہین مسح کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے۔“ اور سابقہ فیصلوں کو برقرار رکھا۔

● ہیومن رائٹس کمیشن کے ایک مشہور کیس (Faurisson VS France) کا عدالتی فیصلہ ملاحظہ ہو:

”ایسے بیانات پر جو یہودیت دشمن جذبات کو ابھاریں یا انہیں تقویت دیں، پابندیوں کی اجازت ہو گی تا کہ یہودی آبادیوں کے مذہبی منافر سے تحفظ کے حق کو بالا دست بنaja سکے۔“

روزنامہ نوائے وقت لاہور میں شائع ہونے والے مضمون یورپ اور توہین انگلیاء میں مجاہد ناموس رسالت ﷺ جناب محمد اکمیل قریشی لکھتے ہیں:

”یورپ کی عیسائی اور نامنہاد سیکولر حکومتوں کا شروع سے یہ عجیب و غریب دوہر امعیار رہا ہے کہ اپنے ملکوں میں تو توہین مسح کے جرم کی تکمیل سزا، سزا موت نافذ رہی ہے جواب بھی عمر قید کی صورت میں موجود ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یا دوسرے مسلمان

ملکوں میں پیغمبر اسلام ﷺ کی اہانت کی سزا کا سرے سے وجود ہی نہ رہے کیونکہ اس سے عیسائی اور دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔“

مغرب کی منافقانہ روشن : ان خاکوں کی اشاعت کے لیے بہت سے اخبارات نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ سیکولر معاشرے کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ مذہبی نظریات کے تحفظ کے پابند نہیں۔ دوسری طرف ان ممالک کے آئین اس امر کی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاں بننے والوں میں کسی مذہبی انتیاز کو جگہ نہیں دیں گے، لیکن ان ممالک کا عملی روایہ اس دعویٰ کے برعکس ہے۔ ان ممالک میں عیسائیت اور یہودیت کو جو تحفظ حاصل ہے اور قوانین میں ان کی جو ترجیحی حیثیت موجود ہے، اسلام کو یہ تحفظ کسی مرحلہ میں بھی میسر نہیں۔

\* ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک میں یہودیوں کے جرمی میں قتل عام کی خود ساختہ تاریخ اور ان کی مظلومیت کو پورا تحفظ دیا گیا ہے۔ اس مزومہ قتل عام (عام ہولوکاست) میں مقتولین کی تعداد ۵۰ لاکھ سے کم بیان کرنا کسی کے مجرم بننے کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ اس کہانی کے کسی جز کا بھی انکار کرنا ۲۰ سال تک قید کی سزا کا مستوجب ہے۔ ان ممالک کا یہ قانون مذہبی انتیاز پر واضح دلیل اور آزادی اظہار پر صاف قدغن ہے۔ لیکن چونکہ اس سے یہودیوں کی دل شکنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو تو قانونی تحفظ عطا کیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کی دنیا بھر میں اور خود ڈنمارک میں دل شکنی کوئی جرم نہیں۔ یہ تضاد مغربی لبرل ایزم کا پورا پول کھولتا ہے.....!

\* برطانیہ میں حضرت عیسیٰ کی توہین پر موت کی سزا موجود ہے اور اس سزا کو عالمی عدالت انصاف بھی مختلف موقعوں پر تسلیم کرچکی ہے گویا وہ برطانیہ کے اس تصور قانون کی موید ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کو آزادی اظہار کے دائرے میں لانا کیوں برطانوی حکومت کو گوارا نہیں۔ علاوہ ازیں برطانیہ کے اس قانون کا دائرہ صرف چچ کے تحفظ تک ہی کیوں محدود ہے؟ یہ قوانین شہریوں میں عدم مساوات اور مذہبی انتیاز پر واضح دلیل ہیں۔

\* حضرت عیسیٰ کی توہین کا ایک کیس آسٹریا میں بھی ۱۹۹۰ء میں زیر ساعت لایا گیا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قانون دیگر مغربی ممالک میں بھی موجود ہے۔ اس کیس، اونٹو پرینگر انٹیٹیوٹ بنام آسٹریا، کے فیصلہ میں عدالت نے تحریر کیا کہ

”دفعہ ۹ کے تحت مذہبی جذبات کے احترام کی جو ضمانت فراہم کی گئی ہے اس کے مطابق کسی بھی مذہب کی توہین پر بنی اشتعال انگریز بیانات کو بد نیتی اور مجرمانہ خلاف ورزی قرار دیا جاسکتا ہے۔ جمہوری معاشرے کے اوصاف میں یہ وصف بھی شامل ہے کہ اس نوعیت کے بیانات، اقوال یا افعال کو خلل، بردباری اور بروداشت کی روح کے منافی خیال کیا جائے اور دوسروں کے مذہبی عقائد کے احترام کو صد فیصد تلقینی بنایا جائے۔“

۱۹۸۹ء میں ایک فلم Visions of Ecstasy کو برطانوی سنسر بورڈ

نے اس بنیاد پر نمائش سے روک دیا کیونکہ اس میں چچج کی توہین پائی جاتی تھی۔ حالانکہ بعد ازاں وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس میں توہین آمیز اور قابل اعتراض چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں۔

\* اس واقعہ میں ہمہ قسم کے نسلی امتیازات (یا تھببات) کے خاتمے پر عالمی کونشن، ICERD کی بھی صریحًا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جس کی رو سے نسلی برتری، نفرت انگیز تقاریر اور نسلی تعصب کو ابھارنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اور اقوام متحده پر لازم ہے کہ اس قسم کے قابل تعزیر اقدامات کے ذمہ داروں کو قرارِ واقعی سزادے۔

ایسے معاشرے جہاں مذاہب کی بنیاد پر تفریق منوع ہے وہاں اسلام کو نظر انداز کر کے دیگر مذاہب کو یہ تقدس عطا کرنا بذات خود قابل موافذہ اور مذہبی امتیاز کا مظہر ہے۔ یہ مغرب کی اس منافقت کا پول کھوتا ہے جو آئے روز مذہبی مساوات کا دعوی کرتی اور مسلم ممالک کو اس کا درس دیتی رہتی ہے۔ بالخصوص اس وقت جب جمہوری اصولوں کی دعویدار حکومتیں اس حقیقت کے علی الرغم اس زیادتی کا ارتکاب کریں کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے ڈیڑھ ارب یعنی دنیا بھر کی چوتھائی آبادی کے مذہبی جذبات کا تمثیل رکھتا ہے۔

(ماہنامہ محدث لاہور، جلد نمبر ۲۸، شمارہ نمبر ۳)

## شان رسول ﷺ میں گستاخی اور پیر و ان رسول

### ﷺ کا موقف

ذیل کی تحریر عالم اسلام کے مشہور داعی، مفکر اور فقیہہ ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی کے خطبہ جمعہ کی ترجیحی ہے۔ علامہ موصوف نے یہ خطبہ ۲۰۰۶ء۔ ۳۔ کودوہ، قطر کی عمر بن خطاب نامی جامع مسجد میں دیا۔ اس دن کو یوم الغضب کے طور پر منایا گیا اور نماز جمعہ معاً بعد اجتماعی ریلی نکالی گئی۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره  
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  
يهدى الله فلامضل له ومن يضلله فلن تجد له ولها  
مرشدًا وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.

اما بعد! اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے طرز عمل اور سلوک کو پاکیزہ بنایا: ”تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے“ (بم: ۲)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی گفتگو کو پاکیزہ بخشی ”وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے وہ تو ایک وحی ہے جوان پر نازل ہوتی ہے۔“ (بم: ۳)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی نظر کو پاکیزہ بنایا ”نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔“ (بم: ۱۱)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی نظر کو پاکیزہ بنایا ”نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔“ (بم: ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اخلاق کو پاکیزگی بخشی: ”اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبہ پر فائز ہیں۔“ (قلم: ۲) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی رسالت کو پاکیزہ بنایا: ”اے نبی! ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (انبیاء: ۱۰۷) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت کو پاکیزہ بنایا: ”اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔“ (آل عمران: ۱۰۰) اور ”اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔“ (ابقرۃ: ۱۳۳) اے اللہ در و سلامتی بھیج ایسے جلیل القدر نبی (محمد ﷺ) پران کے اہل و عیال اور ان کے اصحاب پر جوان پر ایمان لائے، ان کی مدد کی اور نور کی اتباع کی جوان پر نازل ہوا اور درحقیقت وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں اور اللہ خوش ہوا ان لوگوں سے جو اس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے اس کی سنت سے ہدایت حاصل کی اور اس کے راستے میں جہاد کیا۔

برا در ان اسلام! زمانہ ماضی میں کسی کے اندر یہ جرأت نہ تھی کہ کسی مسلمان کی عزت کو گزند یا کسی لفظ سے تکلیف پہنچا سکے اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ واقعی امت مسلمہ تھی جو اپنی مدافعت پر پوری قدرت رکھتی تھی، دشمن مسلمانوں کے رعب سے ایک ماہ دور کی مسافت سے بھی گھبرا تا تھا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سلطنت روم میں ایک مسلمان قیدی کی اہانت کی گئی ہے تو انہوں نے قیصر روم کو یہ خط لکھا: ”مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری سلطنت میں ایک مسلمان کے ساتھ اہانت آمیز سلوک

کیا گیا ہے، جب تمہیں میرا یہ خطمل جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ میں ایک ایسے لشکر سے یلغار کروں گا جس کا پہلا سرا تمہارے پاس ہو گا اور آخری سرا میرے پاس۔“

اس کے بعد ملک روم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اس مسلمان قیدی کو رہا کر دے۔

تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روی نے ایک مسلمان عورت کو طماںچہ مارا اس وقت وہ خاتون اسلامی سلطنت سے بہت دور سلطنت روم میں تھی انہوں نے وہاں سے مدد کے لیے (اے خلیفہ معتصم مجھے بچاؤ) کی پکار لگائی، اس وقت ان سے کہا گیا کہ معتصم یہاں کہاں ہے! لیکن جب خلیفہ معتصم کو ان کا استغاثہ ملا تو کہا کہ (اے میری بہن میں حاضر ہوں) اور ایک لشکر جرار تیار کیا اس واقعہ کو عموریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، عربی کے مشہور شاعر ابو تمام نے اس واقعہ کو اپنے قصیدے میں دوام بخشنا ہے۔

السيف أصدق أنباء من الكتب تکوار کی خبر کتابوں اور نجومیوں کے زانجوں سے زیادہ سمجھی ہے۔

فی حدہ الحد بین الحد واللعب جس کی دھار نہیں اور مذاق دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے۔

یہ ہماری تاریخ تھی لیکن اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اہم مقدسات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ جس کی تعداد اس وقت تقریباً سوا ارب ہے اور جو دنیا کی تقریباً ایک

چوچھائی آبادی ہے اس وقت اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا، اتناسب کچھ ہونے کے باوجود امت پر سناٹا طاری ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کان بند کر لیے گئے ہوں یا قوت ساع جواب دے گئی ہو۔

ہر طرف سے تباہیوں نے گھیر لیا، پانی سر سے اوپنجا ہو گیا، قرآن کریم کا مذاق اڑایا گیا، لیکن امت خاموش رہی، بند کروں کے اندر قرآن کریم کو رومندا گیا، جسے کسی نے نہیں دیکھا اس کا بعد میں انکار بھی کیا گیا، یہاں تک کہ اب محمد ﷺ کا شب و روز کھلے عام رسائل و جرائم میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اسے امت کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتی بلاشبہ یہ ایک ہمالیائی جرم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ گستاخی انسانی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں کی گئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنیا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ ﷺ کی بعثت فرمائی اور سارے جہاں کے لیے رحمة اللعالمین بناؤ کر بھیجا، رسالتون کا سلسلہ آپ ﷺ پر ختم ہو گیا اور آپ کو ایسی جامع رسالت عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرتسلیم خم کر دیا ہے۔“ (تحفی: ۸۹)

نبی کریم ﷺ کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے وہ بہت بھیانک جرم ہے اور جرم کی شناخت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے گا کہ یہ جرم کس کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس نقصان کا دائرہ کیا ہے؟ اس زیادتی کا شکار کوئی ایک

خاندان یا قبیلہ نہیں ہوا ہے کہ کسی شیخ قبیلہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہوا اور اس کا شکار صرف اس کا خاندان ہوا ہو جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ

فغض الطرف انك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلاما

”تم شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لو اس لیے کہ تمہارا انتساب قبیلہ نمیر  
سے ہے۔ قبیلہ بنو کعب یا بنو کلب کو کہاں پہنچ سکتے ہو۔“

یہاں اس زیادتی کا شکار شمال و جنوب سے لے کر مشرق و مغرب تک پوری امت محمدیہ (شیعہ و سنی) ہے جس زاویہ نظر سے بھی دیکھا جائے یہ بہت بھی انک جرم ہے، آخر اس جرم کا سبب کیا ہے بہت سارے جرائم کا کوئی نہ کوئی سبب اور محرك ہوتا ہے لیکن اس جرم کا کوئی سبب نہیں۔

ڈنمارکی جریدہ کے مدیر نے کارٹونسٹوں کو محمد ﷺ کی تخیلاتی کارٹون سازی کے لیے مقابلہ (میٹھین) کی دعوت دی بعض کارٹون سازوں نے اس مقابلہ میں شرکت سے گریز کیا یہ جان کر کہ یہ چیز مسلمانوں کے غم و غصہ کو بھڑکادے گی لیکن وہ جریدہ برابر لوگوں کو مقابلہ میں شرکت پر اکساتار ہا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا، اور جریدہ نے نبی اکرم ﷺ کے بارہ کارٹون شائع کئے ہر کارٹون نبی اکرم ﷺ کی شخصیت کو حد درجہ بد نما اور مجروح کرتا ہے، وہاں کے ماحول میں اس جرم کا سرے سے نہ کوئی سبب ہے اور نہ محرك، کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کے حکومت اور برادران وطن دونوں سے بہتر تعلقات ہیں، پھر کس چیز نے ان کو اس امت کی اہانت پر اکسایا، گویا کہ

ان کی اس حرکت پر کسی کو غصہ ہی نہیں آئے گا؟

اس جرم کی کوئی وجہ جواز نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائے کی آزادی ہے آخر یہاں کون سی رائے تھی جس پر مباحثہ کیا جاتا اور دوسرا رائے کے لیے دلیلیں پیش کی جاتیں یہاں تو سرے سے کوئی رائے تھی ہی نہیں یہ تو کھلم کھلا جاتی ہے۔

اس جرم کی شناخت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے ان تصویروں کو دیکھا ہو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ہلاکا معاملہ ہو گا لیکن جب میں نے ان تصویروں کو دیکھا تو اس نے میری آتش غصب کو بھڑکا دیا، میرے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا، دل غم و غصہ سے بھرا آیا اور ایسا لگا کہ جیسے میں آپ سے باہر ہو جاؤں گا اس طرح کے واقعہ پر کوئی برباد سے برباد آدمی بھی غصہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اسے رائے کی آزادی کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے کیا رائے کی آزادی یہ ہے کہ لوگوں کو اور ان کے ماں باپ کو گالی دی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ میری رائے ہے اور مجھے رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہے۔

نہیں..... ہرگز نہیں اسے رائے کی آزادی نہیں بلکہ اسے بے ادبی، بد تیزی، بد اخلاقی، اقدار کی بے حرمتی اور ناروا طرز عمل کہتے ہیں جسے اخلاق، معاشرتی اقدار، مذاہب عالم اور ہر معقول انسان روکرتا ہے۔

ابتداء ہی میں ڈنمارک کے مسلمانوں نے جریدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت پر معذرت کر لے لیکن جریدہ نے معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں رائے کے اظہار کی آزادی ہے، اس کے علاوہ اسلامی ممالک کے اکیس عرب سفراء نے ڈنمارک کے وزیر اعظم سے

ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ڈنمارک کے لوگوں اور اظہار آزادی رائے کا معاملہ ہے ہمارا اس سے کوئی لینادینا نہیں، اگر اس نے ابتداء ہی میں اس پر گام ڈالی ہوتی اور کہا ہوتا کہ کسی کی اہانت ہمارا مقصد نہیں اور ہم اس کے لیے معدترت خواہ ہیں اور سفراء سے ملاقات کر لی ہوتی تو معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے اس قابل افسوس موقف پر مسلسل اصرار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ماہ بعد ناروے کے ایک جریدہ نے انہیں تصویریں کوشائی کیا اور ڈنمارکی جریدہ نے پھر انہیں تصویریں کو دوبارہ دو ماہ بعد جنوری میں شائع کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا آتش غضب دوبارہ بھڑک اٹھا، حالانکہ لوگ اس موضوع کو بھول چکے تھے، لیکن ڈنمارکی جریدہ نے اس موضوع کو پھر سے زندہ کر دیا، ڈنمارک کے مسلمانوں نے اس معاملہ کو پوری امت مسلمہ پر پیش کرنے کا ارادہ کیا اس لیے کہ یہ معاملہ صرف تہاں کا معاملہ نہیں، محمد ﷺ صرف ان کے رسول نہیں، اسلام صرف ان کا دین نہیں۔

اس جریدہ نے ایک بہت بھی ایک جرم اور ایک نہ موم روشن کی ابتداء کی ہے اس فعل پر وہ گنہگار ہے اور جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے وہ سب گنہگار ہیں اس لیے کہ یورپین رسائل و جرائد (فرانس، اٹلی، ہالینڈ، سویزرلینڈ، جرمنی، اسپین، بی بی سی لندن) نے اس کے ساتھ اظہار تیکھتی کے لیے ان تصویریں کو بار بار شائع کیا ہے، لیکن فرانسیسی جریدہ جس کا مالک ایک مصری تاجر ہے اس کو اس معاملہ کا زیادہ علم نہیں تھا لیکن جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے جریدہ کے مدیر کو برخاست کر دیا، اسے لگا کہ اس طرح کی چیز کسی بھی

طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرانسیسی وزیر خارجہ نے جریدہ میں جو کچھ ہوا ہے اس پر اپنی مذہرات پیش کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ہم فرانسیسی نو بری کرتے ہیں اور اگر یورپ کے دوسرے ممالک اپنی اس حرکت پر پیشیانی اور برآت کا اظہار نہیں کرتے اور اپنی ہدث دھرمی پر قائم رہتے ہیں تو ان کے سلسلہ میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

قرآن کریم کا مذاق (اس سے قبل قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا چکا ہے) اسلامی مقدسات کی بے حرمتی، نبی اکرم ﷺ کا استہزاء جیسے امور پر امت مسلمہ کا کیا موقف ہونا چاہیے؟

سو ارب آبادی والی امت مسلمہ کو سب سے پہلے چاہیے کہ اس طرح کے امور کو چیلنج کرے اور اپنے نبی، اپنے دین اور اپنے قرآن کے لیے غضبناک ہو اور اپنے غم و غصہ اور ناراضکی کا اظہار کرے اور لوگوں کو بتا دے کہ اس طرح کی چیز ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ایسے موقع پر غضبناک ہونا صرف فضیلت کی بات نہیں بلکہ فریضہ ہے، صحابہ کرام عن اللہ عاصی شان رسول اکرم ﷺ میں گستاخی کا ایک لفظ نہیں برداشت کر سکتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دتھیئے کہ میں فلاں شخص کی گردان مار دوں، ذات رسول اکرم ﷺ سے محبت ایمان کا جزو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا لَهُ  
وَوَلِدِهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ.

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک  
کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی آل  
اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔

اور

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الْإِيمَانِ أَن يَكُونَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا .

[صحیح بخاری، کتاب الایمان عن انس بن مالک ۱۵]

تین چیزوں جس شخص کے اندر پائی گئیں تو سمجھ لوا کہ وہ ایمان کی  
حلاوت و چاشنی کو پا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے  
نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔

بعض صحابہ کرام ﷺ جو مکہ کی تپتی ہوئی چنانوں پر تکلیف سے دوچار  
کئے جا رہے تھے ان سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد  
(صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری جگہ ہوں اور تم لوگ مکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس ہو، ان  
لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جہاں بھی ہے  
ہمیں وہاں یہ بھی پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کائنات بھی چھپے،  
یہ سن کر ابوسفیان نے کہا کہ جس طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اصحاب محمد محبت کرتے  
ہیں میں نے کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غضبناکی کا اظہار کرے،  
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے غضب کو  
دعوت دی جائے اور وہ غضبناک نہ ہو تو ایسا شخص گدھا ہے اور ہم اس طرح کی

امت نہیں کہ جس پر سوار ہوا جائے بلکہ ہم شیر ہیں جو اپنے کچھار کی حفاظت کی خاطر دھاڑتا ہے اور اپنی عزت پر آج نہیں آنے دیتا۔

اس لیے امت محمدیہ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اللہ، اپنے رسول ﷺ اور اپنی کتاب کے لیے بھڑک اٹھے، اس کے لیے اس طرح کی بے عزتی برداشت کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں اور جو شخص اس کی رسوانی قبول کرنے پر راضی ہو وہ ہم میں سے نہیں۔

”اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومن کے لیے ہے مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔“ [منافقون: ۸]

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے غضب کا اظہار کریں اور دنیا کو بتادیں کہ ہمارا غصہ کیا ہوتا ہے عرب شاعر کہتا ہے:

لَئِنْ كَنْتَ مُحْتَاجًا إلَى الْخَلْمِ

فَانْسِنِي إلَى الْجَهْلِ فِي بَعْضِ الْأَحَابِينَ أَحْوَجَ

اگر میں حلم و بردباری کا ضرورت مند رہتا ہوں، تو بسا اوقات مجھے

نادانی و بہت دھرمی کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔

وَلَى فَرْسٌ لِلْحَلْمِ بِالْحَلْمِ مَلْحَمٌ

وَلَى فَرْسٌ لِلْجَهْلِ بِالْجَهْلِ مَفْرَدٌ

میرے پاس ایک حلم و بردباری کا گھوڑا ہے جسے میں نے سمجھی گی

و متانت کی لگام پہنار کھی ہے: اور جہل و بہت دھرمی کا بھی ایک گھوڑا

ہے جو اپنے اس فن میں منفرد ہے۔

فمن تقویمی فانی مقوم  
ومن رام تعویجی فانی معوج  
جو مجھے سیدھا دیکھنا چاہتا ہے میں اس کے لیے پہلے ہی سے سیدھا  
ہوں اور جو مجھے ٹیڑھا دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے پہلے ہی  
سے ٹیڑھا ہوں۔

وما كنست أرضي الجهل حزنا وصاحبا  
ولكننى أرضى به حسين احرج  
ناداني وہت دھرمى کو میں نہی خوشی نہیں اپناتا ہوں، بلکہ میں اس کو  
اس وقت اپناتا ہوں جب مجبور کر دیا جاتا ہوں۔

اپنی غیرت و حرمت کی پاسداری کے لیے آدمی کا غیرت مند ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برا کہا ہے جسے غیرت نہیں آتی ہو، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دیویت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول دیویت کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس برائی دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے، یعنی اسے معلوم ہو کہ کوئی آدمی اس کے غائبانہ میں اس کی بیوی سے باتیں کرتا ہے اس کے پاس آتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود داپنے کا نوں میں روئی ڈال لے ایسا آدمی بے غیرت ہے اس کی مردانگی مفقود ہو چکی ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

ان سعد الغیور وانا اغیر منه والله اغیر منی.  
[طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔]

”سعد بہت غیور آدمی ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں  
اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔“

یہ بے غیرتی ہے کہ امت کی ذلت دین کی پامالی اور نبی ﷺ کی  
توہین برداشت کی جائے اور کوئی اقدام نہ کیا جائے اور نہ ہی غیرت و حمیت  
و غصب کا اظہار کیا جائے، ہم دیوٹ (بے غیرت) امتوں میں سے نہیں ہیں،  
 بلکہ اگر ہماری عزت و ناموں پر حرف آئے تو ہماری غیرت ہم کو للاکارتی ہے، آج  
 کا دن اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تمام ہی انبیاء و رسول، آسمانی کتابوں  
 اور نماہب کے تقدس و حرمت کے لیے غصب کا دن ہے، اس لیے میرا امت  
 مسلمہ سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ  
(۱) وہ اپنی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرے، اپنی غصبنا کی کا اظہار کرے اور  
 اگرامت نے غم و غصہ اور غیرت کو کھو دیا تو سمجھو کہ اس کی زندگی اور اس کی  
 معنویت سب ختم ہو گئی۔

(۲) ہم اسلامی مقدسات کا مذاق اڑانے والوں اور نبی ﷺ کی توہین کرنے  
 والوں کی تمام مصنوعات (پروڈکشنس) کا بایکاٹ کریں جو کچھ ہم پر واجب ہے  
 یہ اس میں سب سے کم درجہ کی چیز ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی اور اپنے نبی  
 ﷺ کی توہین کرنے والوں کی مصنوعات کو فروغ دیں، پہلے ان لوگوں نے  
 معذرت کرنے اور پھر مسلمان سفراء سے ملاقات کا انکار کیا لیکن جب انہیں  
 بایکاٹ کا علم ہوا تو معذرت کرنے لگے آخر شروع ہی میں تم لوگوں کو معذرت  
 خواہی کا احساس کیوں نہ ہوا؟

(۳) ہمارا ملت مسلمہ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ ان ممالک سے اپنے سفراء واپس بلا سیں اور ہم انہیں بتادیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے غضبناک ہوتے ہیں، ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں ان ممالک کو جنہوں نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، جیسے سعودی عرب اور شام جنہوں نے وہاں سے اپنے سفراء واپس بلا لیے اور کوئی پارلیمنٹ کو بھی جس نے ان لوگوں کی مصنوعات (پروڈکشن) کے بایکاٹ کی قرارداد پاس کی اور مصر، قطر اور پورے عالم اسلام کے لوگوں کو جنہوں نے بایکاٹ کا اعلان کیا، ہم اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے غم و غصہ کا ساتھ دیں اور ایک موقف پر ڈٹ جائیں اور ان کو بتادیں کہ ہم لقمه تر نہیں جسے آسانی سے نگلا جاسکے، ہم لوگوں وہ ہیں جو کسی بھی حال میں اہانت برداشت نہیں کر سکتے۔

(۴) ہم اقوام متحده سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایک ایسا قانون پاس کرے جس کی رو سے انبیاء و رسول، مقدس آسمانی کتابوں اور مذہبی مقدسات کی پامالی کو قطعی طور پر منوع قرار دیا جائے اس سے قبل یہودی مقدسات کی حفاظت کے لیے اس طرح کا قانون بنایا جا چکا ہے، بعض ڈنمارکیوں نے کہا ہے کہ ہم چاہیں تو صحیح اور مسیحیت کا مذاق اڑا سکتے ہیں لیکن تم یہودیت کا مذاق نہیں اڑا سکتے، یہودیت نے اپنی حفاظت کی خاطر قانون کی پناہ لے رکھی ہے یہاں تک کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ (نام نہاد) ہو لوگوں سوچ جیسے واقعہ کے اعداء و شمار پر مناقشہ کر سکے اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے اگرچہ وہ کوئی علمی و تحقیقی مقالہ ہی کیوں نہ ہو، روچیہ غارودی نے جب اس

موضوع پر لب کشانی کی تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔  
 اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون ہو جوانبیاء و رسال، آسمانی  
 کتابوں اور مذہبی مقدسات کی حفاظت کرے تاکہ کسی کو ان کی اہانت کی جرأت  
 نہ ہو سکے، ہم اسلامی ممالک سے مطالبه کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا قانون  
 بنانے کے لیے اقوام متحده پر دباؤ ڈالیں، اور ہم امت مسلمہ سے بھی یہ مطالبه  
 کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں اور ڈنمارکیوں سے یہ کہیں کہ  
 تمہارے سلسلہ میں ہمارا موقف اسی وقت نرم ہو سکتا ہے جب تم دین اسلام کا  
 احترام کرو، مساجد اور دعوتی مراکز کے قیام کی اجازت دو اور جس جریدہ نے نبی  
 کریم ﷺ کی اہانت کی ہے وہ اپنے جریدہ میں ذات کریم کا دفاع کرے  
 اور آپ ﷺ کی شرافت و فضیلت اور دعوت و رسالت کی نشر و اشاعت کی کئی  
 ماہ تک اجازت دے۔

میں یہاں اس سلسلہ میں اسلامی طریقہ اور موقف کی وضاحت کروں گا،  
 اسلام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت اور پاکیزگی کی تربیت دیتا ہے اور کسی کو بھی سب  
 وہتم سے منع کرتا ہے یہاں تک کہ چیزوں کو بھی گالی دینے سے روکتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

لا تسبوا اصحابی . [صحیح مسلم عن ابی هریرہ: ۱۹۶۷: ۴]

”میرے اصحاب کو گالی مت دو۔“

لا تسبّن احدا ولا تحقرن.

[المعجم الطبرانی عن ابی حریرہ: ۶۵/۷]

”کوئی کسی کو نہ گالی دے نہ تحقیر کرے۔“

لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء.

(صحیح ابن حبان عن مغیرة بن شعبة: ۲۹۲/۷)

”مردلوں کو گالی مت دواس طرح تم زندوں کو (جو ان کے رشتہ دار ہیں) تکلیف دو گے۔“

لا تسبی الحمی فانها تذهب خطایا بني آدم.

(سنن بیهقی عن حابر بن عبد اللہ: ۳۷۷/۳)

”بخار کو گالی نہ دی جائے اس لیے کہ اس سے بني آدم کے گناہ دور ہوتے ہیں۔“

لا تسبوا الريح انها مأمورة.

(مستدرک على الصحيحين عن ابی بن كعب: ۲۹۸/۲)

”ہوا کو گالی مت دواس لیے کہ وہ مامور ہے۔“

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر.

(صحیح مسلم عن ابی هریرۃ: ۱۷۶۳/۴)

”زمانہ کو گالی مت دواس لیے کہ زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔“

لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلوة.

(صحیح ابن حبان عن زید بن عالد الجھنی: ۳۷/۱۳)

”مرغ کو گالی مت دواس لیے کہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔“

ان تمام چیزوں میں خیر کا پہلو ہے اس لیے اسے گالی دینا جائز نہیں  
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ”یہ لوگ اللہ کے سواب جن کو پکارتے  
ہیں انہیں گالیاں مت دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی  
بانپر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔“ (انعام: ۱۰۸)

حدیث شریف تو یہاں تک کہتی ہے کہ:

لَا تُسْبِّو النَّجَّابَ فَإِنَّ السَّبَ لَا يَدْفَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهُ وَلَا يَغْنِي  
عَنْكُمْ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَلَكِنْ تَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ.

(فیض القدیر عن ابی هریرۃ: ۶/۴۰۰)

”شیطان کو گالی مت دواس لیے کہ گالی تم سے اس کے ضرر کو نہ  
روک سکتی ہے اور نہ ہی اس کی دشمنی سے ذرہ برا بر بھی بے نیاز کر سکتی  
ہے بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔“

اور یہ سکھایا گیا ہے کہ  
”اور دعا کرو کہ پروردگار، میں شیطان کی اکساہیوں سے تیری پناہ  
مانگتا ہوں۔“ (مومنون: ٩٧)

یہی اسلامی طریقہ ہے جو انسانوں کو گالی دینے سے روکتا ہے چہ  
جائیکہ انہیاء درسل کو گالی دی جائے اور انہیاء تو وہ ذات گرای ہیں جن کی عزت  
سے چھیڑ چھاڑ کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور ہم نبی اکرم ﷺ اور دوسرے  
تمام انہیاء حضرت ابراہیم ﷺ، حضرت عیسیٰ ﷺ، حضرت موسیٰ ﷺ، حضرت  
یعقوب ﷺ کسی کی بھی اہانت کی اجازت نہیں دیں گے۔

بندہ عاجز ناکارہ

محمد علی جانباز

خادم جامعہ رحمانیہ، سیالکوٹ